

www.islamiurdubook.blogspot.com

حصالک کا جواز



www.islamiurdubook.blogspot.com

مصنف

فیض ملت، آقا تاب ابادت، امام المذاہرین، بریس المصنفوں

حضرت علامہ الحافظ مشتی مجر نیشن احمد اولیٰ کی رضوی مدظلہ العالی

با اهتمام مولانا حمزہ علی قادری

ناشر عطاء روپ پبلیشورز مدنیۃ الصریف

دھمال کا جواز

تصنیف: فیض ملت، آفتاب الحست، امام المذاکرین،

حضرت علامہ الحافظ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ العالی

پیش لفظ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى وحده و اصلوة والتسلیم علی من لا نبی بعده

وعلی الله واصحابه واحزابه وعلی اولیائے علمائے واحبابہ

اما بعد! صوفیہ کرام کا ہر قول فعل روحانیت کے لئے اسیکارا کام کرتا تھا اور کرتا ہے لیکن جب سے اب تیمیہ نے ان سے بدظنی پھیلانی شروع کی اور مصنوعی صوفیوں اور جاہل پیروں نے جلتی پرمنی کا تیل چھڑک دیا تو اب ہر ان کے ہر صحیح عمل و فعل اور قول سے نہ صرف انحراف بلکہ جی بھرا نہیں گمراہ کہا جاتا ہے۔

صوفیاء کرام میں عرصہ سے وجد و دھماں جاری ہے جو انکے سوز و گداز پر شاہدِ عدل ہے۔ اسے یار لوگوں نے ناج اور دیگر گندے فواحش سے تعبیر کیا فقیر کے قلم کو چین نہ آیا۔ چند سطور وجد و دھماں کے ثبوت میں پیش کر دیئے تاکہ ان کے معمولات کو غلط تعبیرات سے ان سے سوءِ ظنی نہ پھیلا سکیں اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ سچا صوفی اور حق کا ولی کون ہے اور جھوٹا، فرسی، بکری پیر کون؟

وما تو فيقى الا بالله العلي العظيم وصلى الله على حبيبه الکریم الرؤوف الرحيم

الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاولپور پاکستان

۱۳۰۸ھ مطابق ۲۹ جون ۱۹۸۸ء بروز بدھ

مقدمہ

ہرن کی اپنی اصطلاح ہے اسے دوسری اصطلاح میں استعمال کیا جائے تو مطلب بگڑ جاتا ہے اسی لئے ضروری ہے کہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی اصطلاح ذہن نشین کر لیں۔

(۱) وجود (۲) وجود (۳) تواجد (۴) وھاں۔ یہ الفاظ متبرکہ اصطلاح صوفیہ کرام قدس اسرارہم کے ہیں۔ اپنی مجالس ذوقیہ و تقاریر نوریہ میں اپنے متعلقین کے ساتھ محاورات گفتگو میں استعمال فرماتے تھے۔ نیز اپنی تصانیف رسائل و کتب تصوف میں ان الفاظ کی تحقیق و معانی ابیقہ کی تشریع بھی اپنے ہم زمان اہل عرفان کو سمجھاتے رہے جب تک اولیاء اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہے ان کی اصطلاحات میں کسی قسم کا انکار یا شک و شبہ نہ تھا لیکن ایک عرصہ سے اعداء صوفیہ کی تحریک نے شبہات کھڑے کر دیئے۔

یاد رہے کہ حضرات صوفیہ متقد میں رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو کوئی وقیدہ باقی نہیں چھوڑا لیکن حق کی محبت مفقود ہونے کی وجہ سے خود اہل حق بھی مفقود ہیں یعنی وہ وادی گنمای میں چھپے بیٹھے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں۔ اگر وہ دنیا میں نہ رہے تو دنیا میں تالفات بھی نہ رہیں گی۔ اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ کمی علم کی وجہ سے نہ تو کتب تصوف، متقد میں رحمہم اللہ تعالیٰ مثلاً تالیفات شیخ اکبر، عارف ربانی ابن عربی قدس سرہ و عارف ابن الفارض قدس سرہ وغیرہ ہما حضرات صوفیاء کرام کے مطالعہ کی جرأت اور نہ ہی کوئی ضرورت اور نہ وہ کتابیں نصاب تعلیم میں داخل، نوزائدیدہ مذاہب نے صوفیہ دشمنی میں کسر نہ چھوڑی ادھر ہماری کوتا ہی کہ ہم نے اپنے اسلاف صالحین رحمہم اللہ کے تعارف میں کوئی کام نہ کیا جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ نوزائدیدہ مذاہب نے کچھ ایسے تاثرات پیدا کر دیئے ہیں کہ جومولوی و مسٹر علوم عربیہ میں قدم رکھتا ہے فارغ التحصیل ہونے سے پہلے گستاخی اور بے ادبی اور تشدید سوء لخلاقی میں بغیر امتحان دینے والے کے نمبر اول حاصل کر لیتا ہے۔ عارف روی فرماتے ہیں

بے ادب محروم مامد از لطیف رب

بلکہ آتش در همه آفاق زد

از خدا خواهم توفیق ادب

بے ادب خود رانہ تنہا کرد بد

اللہ تعالیٰ سے ہم ادب کی توفیق کا سوال کرتے ہیں اس لیے کہ بے ادب لطفِ رب سے محروم ہے۔

بے ادب نہ صرف اپنے لیے برائی پھیلارہا ہے بلکہ اس نے زمانہ بھر کو آگ میں جھوک دیا۔

اسی لیے اب سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم صوفیہ کرام کی اصطلاحات کو زیادہ سے زیادہ اُجاگر کریں تاکہ کسی بے ادب و گستاخ کو صوفیہ کرام پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو فقیر اپنی استعداد پر صرف اسی اصطلاح وجود وھاں و تواجد کے بارے

میں کچھ عرض کرتا ہے۔

وجد: اصطلاح صوفیہ میں وہ احوال صادقہ جو قلب پر اس وقت وارد ہوں جب کہ قلب شہود میں فانی ہو۔

تواجد: تکلف کر کے اپنے اوپر وجد لانا اس ارادہ پر کہ وجد کی کیفیت پیدا ہو جائے۔

دھماں: بے ساختہ ناپنے کی صورت بنانا۔

حکم شرعی: بے ساختہ و بلا ارادہ وجد و رقص کا صدور ہو تو جائز ہیں ہاں اس میں دکھاو ایعنی ریا و سمعہ (شہرت) سے ہو تو حرام ہیں۔ یہی حکم تواجد کا ہے۔

دھماں: ناچنا خود ہی بر اعمال ہے لیکن بے خودی و بیہوٹی اور غیر ارادی طور پر ہو تو جائز ہے ان ہر ایک کی تفصیل آتی ہے۔

دھماں و وجد کی ابتداء

یہ سلسلہ سامری (گمراہ) سے جاری ہوا تفسیر روح البیان میں ہے کہ سامری نے زیورات کو آگ میں پکھلا کر مجھڑا تیار کر لیا اس لیے کہ وہ زر گرتا ہے۔ سونا چاندی کا کام خوب جانتا تھا۔ پھر اس مجھڑے کے منہ میں مٹی کی چنکی ڈالی جو کہ اس نے جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی اور وہ گھوڑی حیات تھی کہ جہاں اس کا پاؤں لگتا وہ جگہ سر بز ہو جاتی سامری نے یہ مٹی یا تو دریا کو عبور کرنے سے پہلے یا موئی علیہ السلام کے کوہ طور پر جاتے وقت اٹھائی ہو گی۔ جب اس سونے کے بناوٹی مجھڑے میں سامری نے مٹی ڈالی تو وہ ذی لحم اور ذی دم ہو گیا اور وہ گائے کی سی آواز کر کے مجھڑے کی طرح بھاگنے کو دنے لگا۔ سامری نے کہا اے بنی اسرائیل! یہ تمہارا اور موئی علیہ السلام کا معبد ہے۔

اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد سانچھ ہزار تھی۔ بارہ ہزار افراد کے سواباقی سب مجھڑا پرستی میں بیتلہ ہو گئے۔

وجد و دھماں

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سامری نے مجھڑے کو کھوکھلا کر کے تیار کیا اس میں مخصوص طریقے کی ڈاڑھیں رکھیں پھر اسے ہوا دار جگہ پر رکھ دیا۔ جب ہوا اس کے اندر جاتی تو اس گائے سے ایک مخصوص آواز نکلتی جس سے بنی اسرائیل کو وہم گزرا کر یہ زندہ ہے بنی اسرائیل مجھڑے کی یہ پر کیف حالت دیکھ کر اس کے گرد جمع ہو کر رقص کرتے۔

(غلط کارصوفی) حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ اُن سے سوال ہوا کہ ایک ایسی قوم جو کسی مکان میں بیٹھ کر قرآن پڑھتی ہو۔ پھر وہ اپنے اس اجتماع میں اشعار گائیں اور ان سے رقص کر کے سرو مرستی کا اظہار کر دیں اور ساتھ طبل بجا نہیں کیا ایسے لوگوں کی محفل میں جانا جائز ہے یا ناجائز۔ انہوں نے فرمایا ایسے غلط کارصوفیوں کا مذکورہ بالاطریقہ نہ

صرف جہالت بلکہ باطل محض اور سراسر گراہی ہے۔ اسلام صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ (جل جلالہ و ملئ الشیطون) کا نام ہے۔ رقص اور وجودہ کا طریقہ سامنی کے یاروں کا ایجاد کردہ ہے۔ جیسا کہ مذکور ہوا کہ پھرے کی آواز ن کرنی اسرائیل جھونے لگے اور رقص اور وجودہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا وجودہ دھماں کا طریقہ کافروں اور پھرے کے پچاریوں کا ہے اسلام و قارا اور سکون سکھاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب حضور ﷺ کے سامنے بیٹھے ہوتے ایسے محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔

پادشاہوں اور سلطنت کے ذی اثر افراد پر لازم ہے کہ ایسے غلط کارنام نہاد صوفیوں کو مسجدوں میں نہ آنے دیں اور نہ مسلمانوں کی دوسری تقاریب میں تاکہ عوام میں ان کا بر اثر نہ پھیلے اور نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ ان کی مجلسوں میں جائے اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کرے۔ یہی امام ابوحنیفہ والک و شافعی و احمد رحمہم اللہ تعالیٰ و دیگر ائمہ کا نہ ہب ہے۔

(کذافی حیات الحجوان)

(مسئلہ) انصاب الاحساب میں ہے کہ سماع (مزامیر وغیرہ) پر رقص ناجائز ہے۔

(مسئلہ) ذخیرہ میں ہے کہ سماع پر رقص وغیرہ گناہ کبیرہ ہے۔

صوفیہ کرام کا وجود اور دھماں

مشائخ صوفیہ کرام یعنی اولیاء عظام کے ہاں وہ وجودہ دھماں مباح ہے جس میں دھماں کرنے والا استاذ ہوش ہو کہ اسے اپنی بھی خبر نہ ہوا اور اس کی ہر حرکت رعشہ کے بیمار جیسی ہو۔ اسی طرح سماع (بلامزامیر) بھی وہی جائز ہے جو قرآنی آداب اور وعظ و نصیحت کے طور پر ہو۔ اگر عام قوالی کی طرح ہو تو حرام ہے اس لیے کہ مروجہ قوالی (سماع) حرام ہے۔

حلال سماع کے شرائط

مشائخ صوفیہ کرام کے نزدیک سماع اس شخص کے لیے مباح ہے جو خواہشات نفسانیہ سے آزاد اور تقوی و طہارت کی تصور ہو اور اسے سماع کی ایسی ضرورت محسوس ہو جیسے بیمار کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے سماع کے متعلق مشائخ نے چند شرائط قائم فرمائی ہیں۔

- (۱) مجلس سماع میں کوئی بے ریش اڑکانہ ہو (۲) اس میں سب کے سب اہل ہوں جنہیں سماع کے آداب سے واقفیت اور شرع مطہرہ کے عاشق ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ان میں کوئی فاسق و فاجر نہ ہو اور نہ کوئی اہل دنیا ہو اور نہ کوئی عورت (۳) قوالی کی نیت میں بھی اخلاص ہو وہ اجرت کے طور یا کسی لائق پر قوالی نہ کرے (۴) طعام یا فتوحات کی لائق میں ان (صوفیوں) کا اجتماع نہ ہو (۵) وجودہ دھماں کی اجازت صرف صاحب حال کو اور وارثگی میں تصنیع کے مرکب کو کسی قسم کی اجازت نہ ہو (۶) وجودہ کرنے کے

لیے صرف صاحب وجد کھڑا ہو باقی خواہ مخواہ نہ اٹھیں۔ حضرت شیخ عمر بن الفارض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ موسوم بہ نظم
”الد“ میں فرمایا۔

یسکن بالتحریک وهو بمهدہ
اذا اماله ایدی المربی بہرہ

اذہام شوقا بالمناعی وهم ان
یطیر الی او طانہ الا ولیہ

ترجمہ مع شرح از امام قاشانی

جب ولی کامل حیران و مضطرب ہو کر مرکز اصلی اور وطن اولی کی طرف سرور کے نغموں کی وجہ سے اچھلتا ہے یا اس کی روح کا پرندہ چاہتا ہے کہ اپنے اصلی اور ازالی گھونسلے کو جائے تو اسے اس کا مربی و مرشد تھکیوں سے مہد میں سلاادیتا ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ اضطراب اور اچھلنے کو دنے سے سکون اختیار کر لیتا ہے اس سے شیخ کا مقصد صرف سماع کے فوائد کا اظہار ہے اور بتانا ہے کہ کاملین کا دھماں اور وجد اور ان کا اچھلنا کو دنایا خالی از اسرار نہیں وہ یہی ہے کہ کامل کی روح سماع کے وقت وطن اصلی کی طرف جانا چاہتی ہے۔ بلکہ بدن سے نکل کر اس عالم قدس میں پہنچنے کے لیے بیتاب ہو جاتی ہے لیکن عالم دنیا کا نظام اسے تھکیاں دے کر ساکن کر دیتا ہے کہ ابھی تمہارے جانے کی دیر ہے۔ وہ اس لئے کہ قادر مطلق نے اس کا میعاد مقرر کیا ہے اس سے پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ عزیز حلیم کے مقرر کردہ حدود ہیں۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا۔

کہ غرقست اذان می زند پادوست
مگر مستمع را بذانہ کے کیست
فرشتہ فرومانداز سیراؤ
قوی ترشود و یوش اندر دماغ
بآواز خوش خفتہ خیز دنہ مست

مکن عیب درویش مد ہوش و مست
نگویم سماع لے برادر کہ چیست
گراز برج معنے پرو طیر او
اگر مرد بازی و لہو است ولاغ
چہ مرد سماعست شہوت پرست

فائڈہ

حضرت سروری نے فرمایا کہ چونکہ سماع حرکت کا سبب بنتا ہے اس لیے حرکت کو سماع کہا جائے گا۔ گویا سبب بول کر مسبب مراد لیا جاتا ہے۔

فائڈہ

جب کسی کی خوش آواز سے حالت غیر کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں وجد کہا جاتا ہے۔ مثنوی شریف میں ہے۔

پس غذائے عاشقان آمد ساعت کہ درو باشد خیال اجتماع
قوتے گیرد خیالات ضمیر بلکہ صورت گرو داز بانگ صیر

سچے صوفیوں کی اقسام

یاد رہے کہ وجد بھی متلوں اور مبتدی کو ہوتا ہے اور منکر (یعنی منہجہ وجد سے کوسوں دور ہوتے ہیں) بھی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے اپنی آخری عمر میں ساعت سے توبہ فرمائی تھی۔

صوفیوں کی تین اقسام ہیں (۱) منواجد (۲) اہل وجود (۳) اہل وجد۔ پہلا وہ مبتدی صوفی ہے جسے ضعیف انجداب ہوتا ہے دوسرا متوسط ہے جسے قوی انجداب ہوتا ہے۔ تیسرا ایسے ہی انجداب قوی ہوتا ہے۔ لیکن وہ ظاہری طور اچھلتا کو دتا نہیں بلکہ معنوی طور اندر وطن خانہ یگملہ باوہ کی ہے جو صرف اسے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ کہ کراماً کا تین راجح خبر میست

سبق

عشق اور وجد اور رقص ساعت کے وقت وجد و رقص کی حرکت میں صداقت ضروری ہے (ورنه صداقت نہیں)

خلاصہ کلام

علماء کرام میں ساعت کے متعلق اختلاف ہے بعض جواز کے قائل ہیں بعض انکار کرتے ہیں اس کے بارے میں صحیح مسلک یہ ہے کہ چونکہ سالکین را حق مختلف طبائع رکھتے ہیں ہنا بریں ہوتا ہوا ہے پابند ہوا اس میں ساعت کی الہیت ولیاقت بھی تو اس کے لیے ساعت وجد و رقص وغیرہ جائز ہے ورنہ ناجائز۔

فائدہ

حضرت الشیخ افتادہ آفندی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور شیخ الحاج بیرم ولی قدس سرہ کے سلسلہ میں وجد و دھماں وغیرہ کا کوئی جواز نہیں اس لئے کہ یہ امور ان مبتدیوں کے لیے معین کئے گئے جنہیں وساوس و خواطر شیطانی و نفسانی حاصل ہوں اور ہمارے ہاں ان کا توحید سے بہتر علاج موجود ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی تلقین پر زور دیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسمی عبد المؤمن نے افلاک کی بازگشت سنی تو اس سے اس نے فن موسيقی تیار کر لیا۔ بھی وجہ ہے کہ موسيقی کے اصول بروج کے مطابق بارہ ہیں۔ لیکن ان کی صدا ایک طرز پر ہے مگر حضرت انسان اس

اس سے ثابت ہوا کہ جلوتیہ (بفتح الجیم) طریقہ میں نہ سرو ہے نہ وجہ اور نہ دھماں۔ اس میں توحید کاراز کافی ہے اور پھر ذکر و فکر کہ اٹھتے بیٹھتے اس پر مادمت کی جاتی ہے۔ جو چند شرائط و آداب پر مشتمل ہے (فائدہ) البتہ سماع اور وجود دھماں (خلوتیہ بفتح الحاء) کے طریقہ میں شامل ہے کہ وہ اس کو اپنے اکابر اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ سے موروثی طور پر عامل ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک بھی اگر شرائط و آداب کی پابندی کے ساتھ ہو تو مدد و مفعول ہے ورنہ مذموم و مردود۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانہ کے بعض لوگوں کو سماع کا خونگر پاتے ہیں لیکن افسوس کہ وہ شرائط و آداب بجالانا تو بڑی بات ہے الٹا سماع کی اصلی غرض کے خلاف چلتے ہیں۔ (سبق) دانتا پر لازم ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرے جس میں اس کی سلامتی اور فلاح ہو۔ خواہ مخواہ آوارہ گفتگو اور پیکار قیل و قال سے احتراز کرے اور نہ ہی بلا وجہ کسی سماع کے عاشق و عامل پر اعتراض کرے اس لئے کہ ”لکل زمان رجال و لکل رجال مقام و حال“ ہر زمانہ میں مردان خدا ضرور ہوتے ہیں اور ہر مردِ مولیٰ کا اپنا اور انوکھا حال ہوتا ہے۔ ہمیں ان پر اعتراض کر کے اپنی عاقبت بر بادنہ کرنی چاہیے۔

سچے جھوٹے صوفی کی پہچان

حضرت شیخ ابوالعباس رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص تصوف کا دم بھرتا ہو اور پھر ظالم اور فاسق فاجر لوگوں کے مال سے پیٹ کا تنور بھرتا ہو تو سمجھ لو کہ کذاب اور یہودیت کا حملونا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”سماعون للكذب اکالون للسحت“ جھوٹ سننے کے عادی اور حرام کھانے کے خونگر ہیں۔

سبق

حضرت الشیخ الحاتمی نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں نہ سماع جائز ہے اور نہ ہی ایسے شیخ کو مقتدا بنایا جائے جو سماع کا قائل ہے اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجالس سماع میں حسین و جمیل بے ریش لڑکے اور عورتیں شامل ہوتی ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ یہ سب راہ سلوک کے لیے ایک بڑی آفت ہیں۔ بلکہ ان کی صحبت اور ان کے ساتھ میل جوں سالک کے لیے زہر قاتل ہے بلکہ یہی یہاری ہے جو سالک کو آنماقاناتباہ و بر باد کر دیتی ہے اس لئے کہ یہ گمراہ کرنے کے لئے شیطان کا بہترین آلہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیطان کے مکرتباہی سے مانگتے ہیں۔ وہی طریق و صال کا ہادی اور اپنی ذات و صفات سے پردے ہٹانے والا اور اپنے جلال و جمال کے بعد کمال تک پہنچانے والا ہے وہی سب کا مالک اور ہر

طريق کارفیق ہے۔

اصطلاحی وجود، تواجد، دھماں

وجود کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ یہ کیفیت سامع (اصطلاحی) یعنی حقیقت حال تک پہنچانے والی بات کو سمجھنے اور اسے قلب پر ڈھانے کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے مختصری بحث کے بعد فرمایا کہ سامع (اصطلاحی) یا مذکورہ بالا طریق سے کوئی بات سے تو سنبھالا اپنے اندر ایک نئی حالت پائے یہ وہ قسم ہے (۱) اس کا انجام مکاشفات و مشاہدات ہو (۲) تفسیرات احوال۔ یہ ذوق اور خوف و حزن و لقق و سرور اور افسوس و ندامت اور بیط و بغض کی وجہ سے ہوتا ہے۔

در اصل یہ وجود، قلب کی صفائی پر سامع یعنی مبنی بر حقیقت بات سننے کے وقت ہاتھ کی آواز سنائی دیتی ہے تو وجود کی کیفیت ہو جاتی ہے وجود کی کیفیت کبھی بیان کی جاسکتی ہے اور کبھی بیان نہیں کی جاسکتی۔

تواجد

یہ بھی وجود ہی ہے صرف فرق یہ ہے کہ وجود خود بخود دور ہوتا ہے تواجد بتکلف وہ کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔
(احیاء العلوم)

یہ وہ قسم ہے (۱) ریا کے طور کیا جائے یہ مذموم ہے اس کی نہ مدت اس طرح ہے جو ریا و سمعہ کی ہے (۲) اہل وجود کی کیفیت کی تحصیل کی مشق کا ارادہ ہو کہ اس طرح سے اسے اصلی وجود کی کیفیت نصیب ہو جائیگی۔ یہ اگرچہ جائز ہے لیکن محققین صوفیہ کرام نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ اسکے جواز و عدم جواز میں اختلاف کیا جائے چنانچہ رسالہ قشیریہ مصنفہ امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری ص ۲۶ میں ہے کہ

وَمِنْ ذَلِكَ التَّوَاجِدُ وَالوُجُودُ الْوَجُودُ الْمُسْتَدَاعُ إِلَيْهِ الْوَجْدُ بِضَرْبِ الْخِيَارِ وَلَا يَسْـ لِصَاحِبِهِ كَمَالُ الْوَجْدِ إِذْلُـوْ كَانَ لِكَانٍ وَاجِدٌ أَوْ بَابُ التَّفَاعُـلِ أَكْثَرُهُ عَلَى اظْهَارِ الصَّفَةِ وَلَا يَسْـ قَالَ الشَّاعِرُ إِذَا تَحَازَّتِـتْ وَمَا بِيْ مِنْ حَزَرٍ ثُمَّ كَسَرَتِـتِـ العَيْنَ مِنْ غَيْرِ مَاعُورٍ قَالَ الْعَدُوُّ الْمُضَعِّـفُ قَوْلَهُ تَحَازَّتِـتْ الْخَـ قَالَ فِي الصَّرَاحِ تَحَازَّ الرَّجُـلُ إِذَا ضَيْقَ جَفَـنَهُ لِيَحْدُـو النَّظَرَ كَفَـوْ لَكَ تَعَالَـيْ وَتَجَاهَـلُ۔

انہی میں سے ہے یعنی بعض الفاظ اصطلاحیہ صوفیہ کرام میں سے وجود و تواجد و وجود ہیں۔ پس تواجد اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے اختیار و ارادہ سے اظہار وجود کرے اور حقیقت میں اسکو حالت وجود نصیب نہ ہو۔ کیونکہ اگر اس کو وجود نصیب ہوتا تو وہ خود وجود ہوتا۔ کسی تکلف کی ضرورت نہ تھی۔ عبد ضعیف کہتا ہے کہ قوله تھا ز رأْخَ از بَابِ تَفَاعُـلِـ ہے (ایسے ہی تواجد بھی

از تفاصیل ہے اور باب تفاصیل کثرا یہی صفت کو ظاہر کرتا (جو اس میں نہ ہو) کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ شاعر فرماتے ہیں۔ میں نے تنگی چشم کو قصد آنکھ کیا حالانکہ مجھے میں تنگی چشم نہ تھی۔ پھر میں نے آنکھ توڑ کر دیکھا بغیر اس کے کہ مجھے میں ایک چشمی آنکھ ہوتی غرضیکہ خلاف واقعہ قصد اٹکلف سے سب کچھ کرتا رہا۔ یعنی حاورہ باب تفاصیل تھا زراس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص پک چشم بند کر کے تیزی نظر چاہتا ہے، جیسا کہ بینا کو ناپینا بتانے میں تعامی کہا جاتا ہے یعنی اپنے تیخ ناپینا ظاہر کرنا اور عالم اپنے آپ کو بطور تجاذب عارفانہ جاہل کہا کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو جاہل ظاہر کرنا۔

غرضیکہ تواجد میں تکلف سے وجود کرنے کو دخل ہوتا ہے حقیقت میں وجود کرنے والے کو حقیقت وجود یہ نصیب نہیں ہوتی۔ بہر حال صحیح وجود میں تو کسی کو اختلاف نہیں تواجد میں ہے۔

تواجد کے جواز و عدم جواز کی بحث اور فیصلہ

(۱) ابن ماجہ اور حاشیہ ابن ماجہ میں ہے۔

فَقَوْمٌ قَالُوا إِنَّ التَّوَاجِدَ غَيْرَ مُسْلِمٍ لِصَاحِبِهِ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْتَّكْلِفِ وَيَعْدُ عَنِ التَّحْقِيقِ طَوْقَمٌ قَالُوا إِنَّهُ مُسْلِمٌ لِلْفَقَرَاءِ الْمُجَرَّدِينَ تَوْصِلُوا الْوَجْدَانَ هَذَا الْمَعْنَى وَأَصْلُهُمْ خَبْرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْكُوا فَانْ لَمْ تَبْكُوا فَقْبَاهُ كَوَا الْحَدِيثُ، قَالَ الْعَبْدُ الْمُضْعِيفُ قَوْلُهُ وَأَصْلُهُمْ خَبْرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِي مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْكُوا فَانْ لَمْ تَبْكُوا فَقْبَاهُ كَوَا

(ابن ماجہ باب البکاء ص ۳۱۹ جلد ثانی مطبع مجتبائی)

(۱) بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تواجد یعنی تکلف سے وجود کرنا غیر مسلم و نامناسب ہے کیونکہ تواجد میں تکلف ہے اور تحقیق سے بعید ہے۔ (۲) بعض علماء و صوفیہ کرام تواجد کو مسلم اور جائز سمجھتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کے لئے جن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تکلف سے تواجد کرتے کرتے وجد کے عادی ہو جائیں گے اور اس تکلف سے ان کی غرض صحیح اور شرعی اصول کے ماتحت انتظار وجد ہے اور استدلال ان کا اس حدیث سے ہے جس میں الفاظ متبرکہ ابکو افبا کو موجود ہیں۔

(حاشیہ) قوْلُهُ اَنْ لَمْ تَبْكُوا فَقْبَاهُ كَوَا الْحَدِيثُ اَيْ تَكَلَّفُوا الْبَكَاءَ لِتَذَكِّرَ الْآخِرَةَ فَإِنَّهُ مِنْ تَشْبِهِ بِقَوْمٍ مِنْهُمْ اَنْحَاجُ الْحَاجَةَ فِي شَرْحِ ابْنِ مَاجَهِ۔

عبد ضعیف کا عرض ہے کہ یہ وہ حدیث شریف ہے جس کو مسنن ابن ماجہ شریف جلد ثانی باب الحزن والبكاء میں حضرت سعد بن ابی وقار سے روایت فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ روایا کرو اگر تم روئیں سکتے تو تکلف سے روئے کی شکل بنائ کرو یا کرو اور اسی معنی کو انجاج الحاجۃ فی شرح ابن ماجہ میں تصریح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا

کہ جو شخص جس قوم کی نقل اُتارے گا اسی قوم میں واصل ہو کر روز قیامت میں اٹھیگا۔

(۲) امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ مصریہ صفحہ ۳۷ پر ارشاد فرماتے ہیں

والحكایة المعروفة لابن محمد الجریری رحمة الله تعالى انه قال كنت عند الجنيد و هناك ابن مسروق وغيره و ثم قال فقال ابن مسروق وغيره والجنيد ساكن فقلت يا سيدى مالك في السماع شيئاً فقال الجنيد وترى الرجال تحسبها جامدة وهي تمر من السحاب ثم قال وانت يا ابا محمد مالك في السماع شيئاً فقالت يا سيدى انا اذا حضرت موضع فيه سماع و هناك محتشم امسكت على نفسي وجدى فإذا خلوت ارسلت وجدى فتواجدت فاطلق في هذه الحكاية التواجد ولم ينكح عليه الجنيد سمعت الا ستاذ ابا على الدفاق رحمة الله عليه بقول لما رأى ادب الا كا بر في حال السماع حفظاً لله عليه وفتحه لبركات الادب حتى يقول امسكت على نفسي وجدى فإذا خلوت ارسلت وجدى فتواجدت لا نه لا يمكن ارسال الوجد اذا شئت بعد ذهاب الوقت و غيابه ولكن له لما كان ما دقا في مراعاة حرمۃ الشیوخ حفظ الله تعالیٰ علیہ و فتحه حتى ارسل و جده عند الخلوة۔

یعنی امام قشیری رسالہ قشیریہ مصریہ صفحہ ۳۷ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حکایت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھا اور وہاں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مشائخ عظام بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک قول نے قوای شروع کر دی۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وجد میں آگئے اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ باسکون بیٹھے رہے میں نے عرض کی اے میرے مولیٰ آپ کو سماع سے کوئی دل چھپی نہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ آیت قرآنی پڑھی۔ **وترى الرجال تحسبها جامدة وهي تمر من السحاب** یعنی دیکھئے گا تو پہاڑوں کو گمان کرتا ہے تو ان کو جھے ہوئے اور وہ چلے جاتے ہیں مانند گزرتے بادلوں کے۔ فقیر کہتا ہے کہ جب اجسام عظام ایک سمت کو چلتے ہیں۔ سطحی نظر سے جھے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ وہ متحرک ہوا کرتے ہیں میں اگرچہ بظاہر جما ہوا ہوں لیکن اندر وہی طور پر ان سے بھی زیادہ وجد میں تھا۔ پھر ابو محمد جریری پر شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ یا ابا محمد تم کو سماع کے ساتھ کوئی دل چھپی نہیں کہ چپ چاپ بیٹھے رہے اور وجد نہ کیا پھر میں نے عرض کی کہ میرے مولا! جب میں کہیں مجلس سماع میں چلا جاتا ہوں اور وہاں مقام احترام و احشام بزرگان عظام ہوتا ہے تو اپنے وجد کو روک لیتا ہوں۔ جب وہاں سے واپس آتا ہوں تو مقام خلوت میں اپنے وجد کو رخصت عام دے دیتا ہوں اور تو اجد کرنے لگ جاتا ہوں یعنی تکلف سے وجد کرنے لگ جاتا ہوں۔

اس حکایت میں وجد پر تواجد کے لفظ کا اطلاق فرمائے ہیں۔ اس پر شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجتہد ہیں انکار نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا تو اجد جائز مسلم ہے ورنہ انکار فرماتے، شیخ الشیوخ جنید بغدادی سید الطائفہ کا مقاوم بادب الشریعہ ہونا مسلمات ضروریہ میں سے ہے۔

(۳) حضرت ابو علی دقائق رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت مشہورہ پر بطور شرح ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ عظام کا ادب ملحوظ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت وجد و غلبہ عشق کو محفوظ کر رکھا۔ حسب ضرورت بوقت خلوت جب جی چاہے گئے گزرے وقت کو بتوفیقہ تعالیٰ واپس کرا کر تو اجد شروع کر دیا۔ یہی تھی مراعات حرمت، مشائخ عظام کی برکت۔

(۴) وجد کے متعلق امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ صفحہ ۳۷ میں ارشاد فرماتے ہیں

والوجود ما يصادف قلبك ويردعليك بلا تعمدوتكلف ولهذا قال المشائخ الوجود المصادفة۔

یعنی وجد ان کیفیات قلبیہ کا نام ہے جو بلا اختیار و بلا تکلف قلب سالک پر من جانب اللہ وارد ہوتی ہیں۔ اس لئے مشائخ عظام نے فرمایا کہ وجد ایک بے کیف حالت کے پالینے کو کہتے ہیں۔

والمواجيد ثمرات الا وراد فکل من ازراadt و ظائفه ازداوت من الله تعالى لطائفه۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ عظام کا قول ہے کہ وجد نتیجہ ہے ورد کا۔ یعنی جس کے معمولات و اوراد و ظائف زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی درگاہ عالیٰ سے ان کے قلب پر لطائف قلبیہ اور مواجید کا نزول زائد ہو گا۔

(۵) امام ابو علی دقائق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

سمعت الا ستاذ ابا على والدقائق رحمة الله عليه يقول الواردات من حيث الا وراد فمن لا ورده
بظاهرة لا وارد له في سرائره۔

صاحب رسالہ قشیریہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو علی دقائق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے واردات قلبیہ و کیفیات وہیہ لدنیہ بحسب الا وراد ہوا کرتی ہیں پس جس طالب حق کو ظاہری و رد و و ظائف نصیب نہیں ان کو باطنی اضافات میں سے کوئی واردات قلبیہ نہیں ملتے۔

الوجود

اصطلاحات صوفیہ میں ایک لفظ وجد کے قریب قریب الوجود بھی ہے اسکے متعلق رسالہ قشیریہ میں ہے۔

(۱) واما الوجود فهو بعد الا رقاء عن الوجود لا يكون وجود الحق الا بعد خمود البشرية لا نه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة وهذا معنی قول ابی الحسین النوری انا منذ عشرين سنة بين الوجود والفقد ای اذا وجدت ربی فقدت قلبي واذا وجدت قلبي فقدت ربی وهذا معنی قول الجنید علم التوحید مباین لوجوده ووجوده مباین تعلمه فالتواجدیدا یقا والوجود منها یة والوجود واسطة بین البداية والنهاية۔

یعنی صاحب قشیریہ فرماتے ہیں کہ وجود بعد طریقہ کرنے منازل و مقامات وجود کے پایا جاتا ہے۔ مقام وجود کی دارود مدار بجھنے اور مرجحانے بشریت پر ہے کیونکہ بوقت غلبہ حق وجود حق سبحانہ بشریت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ یہی قول ابوالحسین نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے فرماتے ہیں کہ عرصہ بیس سال سے وجود اور فقد کے درمیان میں ہوں (وجود کسی چیز کے پالینے کو کہتے ہیں اور فقد کسی چیز کے نہ پانے اور گم کرنے کو کہتے ہیں) جب میں خدا تعالیٰ کو پاتا ہوں اپنے دل کو گم کرتا ہوں اور جب دل کو پاتا ہوں خدا تعالیٰ کو گم کرتا ہوں۔ یعنی جس وقت غلبہ حق وجود مطلق حق سبحانہ تعالیٰ میں مستغرق ہوتا ہوں تو خود کو بھول جاتا ہوں۔ جس وقت اپنے آپ کو خیال میں لاتا ہوں خدا تعالیٰ کی ہستی کے کیف سے بے خبر ہوتا ہوں۔

(۲) سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ الوجود بقاعدہ علم توحید حق سبحانہ تعالیٰ وجود حق تعالیٰ کے مخالف ہوتا ہے اور وجود حق سبحانہ تعالیٰ اس اصطلاحی علم توحید کے خلاف ہوتا ہے بہر حال تواجد ابتداء مقام کا نام ہے اور الوجود نہیاً مقام کو کہتے ہیں اور وجود واسطہ درمیان تواجد و وجود کو کہتے ہیں۔

(۳) علامہ شیخ الاسلام ابویحییٰ زکریا انصاری شافعی رسالہ قشیریہ کی شرح میں فرماتے ہیں۔
لَانِ الْعَبْدِ مَادَمَ مُدْرِكًا لِنَفْسِهِ مَتَّعًا بِوْجَدِهِ فَبِشَرِيَّةِ حَاصِلِهِ لِغَايَةِ امْشَاغِهِ كَمَالِ الشُّغْلِ حَتَّى
يَنْسِيَ كُونَهُ مُشْتَغِلًا بِهِ صَارَ الْفَالِبُ عَلَيْهِ اذْدَاكُ الْحَقِّ خَاصَّةً وَعَبَرَ وَأَعْنَى هَذَا الْحَالَةُ بِالْوُجُودِ۔

معنی وجود پر تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کی خبر اور اپنے وجود سے آگاہی رکھتا ہے اتنے تک اس میں بشریت باقی رہتی ہے اور جب رب العالمین سے شاغل ہوتا ہے کمال شغل کا حتیٰ کہ اپنے شاغل ہونے کی خبر سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے اس وقت اس پر وجود مطلق حق سبحانہ و تعالیٰ کا غالبہ ہوتا ہے غلبہ حق ہی حق ہوتا ہے اسی حالت کو اصطلاح مشائخ نظام میں وجود کہتے ہیں۔

(۴) یہی علامہ شیخ الاسلام ابویحییٰ زکریا انصاری شافعی شرح رسالہ قشیریہ صفحہ ۳۷ قول جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر بطور شرح ارشاد فرماتے ہیں

قولہ وجودہ مباین لعلمہ الخ یعنی ان العبد یکون عالماً بالتوحید بالا استدلال بالاثار ولا یکون واجد
الله لان وجودہ لا یقی للعبد معه احساس بنفسہ فضلاً عن عملہ واستدلاً له علیہ۔

یعنی علم توحید حق سبحانہ و تعالیٰ بندہ کے لیے باستدلال بالاثار ہوا کرتا ہے بالاستدلال سمجھنا اور ہے اور خدا کا پانا اور ہوتا ہے کیونکہ جس وقت بندہ رب کو پالیتا ہے اس کو سلطنت وجود حق سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلہ میں اپنے وجودتک کا علم بھی نہیں رہتا اور علم بالاستدلال تو مزید چیز ہوگی۔ اسی سے قول جنید رحمۃ اللہ علیہ میں اور کسی قسم کا خفانہ رہا اور نہ رہ سکتا ہے۔

انتباہ: وجد ہو یا تو اجد اس طرح الوجود ہو یا دھماں یہ صوفیہ کرام کے اصطلاحی الفاظ ہیں ان الفاظ کا انکار کوئی جاہل کر سکتا ہے ورنہ اہل علم کو معلوم ہے کہ امام قشیری رسالہ قشیری میں وجود و تواجد و وجود کی اصطلاحات جن بزرگان دین و کاملان شرع میں سے نقل کی ہیں۔ ان کی تعداد حضرت ابو اسحاق، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت ابو عبد اللہ احمد بن عطاء روز یاری تک ۱۸۳ اولیاء عظام امت مرحومہ علی صاحبہا افضل التحییہ ہوتی ہے۔ رسالہ قشیری کو دیکھ کر شمار کر سکتے ہیں۔ سب حضرات تیری اور چوتھی صدی تک کے ہیں۔ فقیر نے رسالہ "میلاد کی شرعی حقیقت" میں قرآن و احادیث و اجماع امت اور قیاس سے مدل و محقق کر کے ثابت کیا ہے کہ شرعی اصطلاحات اور فنون علمی مثلاً صرف، نحو، منطق، اصول وغیرہ ان سب کے اصطلاحی نام اور انکے قواعد و ضوابط سب کے سب بدعاں ہیں خیر القرون میں یہ نام تھے نہ یہ اصطلاحات صدیوں بعد کوئی صدی اول میں کوئی صدی ثانی میں کوئی صدی ثالث میں یہاں تک کہ آج تک بعض فنون کے اصطلاحی نام بنائے جا رہے ہیں آپ سن کر حیران ہو گئے کہ قرآن پاک کے تمیں پاروں کی تقسیم اور ان کے اسماء کی اصطلاح نویں صدی کے بعد ہے اور نہ معلوم ان دونوں ایجادوں کا موجود کون ہے؟ یونہی ہر تلاوت میں "صدق الله العلی العظیم" پڑھنا بدعۃ ہے جس کی نہ ابتداء کا علم اور نہ موجود کا۔ اس طرح کی تحقیق کے لئے فقیر کے رسالہ "بدعت ہی بدعۃ" کا مطالعہ کیجئے۔

ہر فن جدا

حضور سرور عالم ﷺ کا زمانہ اقدس شریعت ساز تھا۔ آپ ﷺ کا ہر قول فعل اصول شریعت تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اصول کی تبدیلی بدعۃ سینہ ہے ہاں اصول کی اشاعت کے لئے طریقے تیار کرنا اور انکے نام رکھنا بدعۃ حسنہ ہے اسی لئے اسلام میں ہزاروں طریقے اور فن کے نام مقرر ہوئے۔

پھر **لکل فن رجال** ہر علم و فن کے لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے مردانِ حق کو مقرر فرمایا ہے اور ہر علم و علماء فن کے اصطلاحات علمیہ جدا جدا ہوا کرتے ہیں چنانچہ **الا ملأء عن اشكالات الاحياء** میں ارشاد فرمایا ہے

ولکل علم ايضاً الفاظ اختصوا بها لا يشار كهم فيها غير هم الا ان يكون ذلك بالاتفاق من غير قصد

و تكون المشاركة اذا تفقت اما في صورة اللفظ دون المعنى او في المعنى و صورة اللفظ جمعاً و هذا يعرف من بحث عن مجازي الا لفاظ عند الجمهور و ارباب الصناع (الاماء و برحاشيه الاحياء جلد اول صفحه ٥٨ مصرى)

ہر علم کے لئے الفاظ خاص خاص ہوتے ہیں جس میں اور علوم کے اصطلاحی الفاظ مشارکت نہیں رکھتے۔ ہاں بغیر ارادہ اتفاقیہ طور پر اگر ایک علم کے الفاظ خاصہ دوسرے علوم و فنون میں مستعمل ہو بھی جائیں تو صرف لفظی مشاکلت و مشارکت ہوتی ہے معانی علیحدہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی الفاظ مخصوصہ ایک علم کے دوسرے علوم میں مشارکت معنوی و صوری رکھتے ہوئے استعمال ہوتے ہیں تو وہ علماء کرام جو الفاظ و کلمات کے محاورات سے ماہر ہوتے ہیں معانی مخصوصہ کو قرآن و صلات کے ذریعہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب تک کسی علم و فن کی اصطلاحات مخصوصہ پر پوری آگاہی نہ ہو صرف تراجم یا کتب لغت سے امداد لے کر منزل مخصوصہ کو پہنچنا ممکن ہوتا ہے بلکہ گمراہ ہونے کا امکان ہے چنانچہ استاذ الحرمین و تاج العلماء المحققین حضرت علامہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ المکی فتاویٰ حدیثیہ مطبع مصری صفحہ ۲۱ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

فقد صرح الإمام ابن العربي رحمة الله عليه بحرمة مطالعة كتبهم الا لمن تحلى بالأخلاقهم و علم معانى كلاماتهم الموافقه لا اصطلاحاتهم ولا تجد ذلك الا فيمن جد و شمر و جانب السوء واشتدا المثرب والا خرة فهذا هو الذي يفهم الخطاب ويؤذن له في الدخول اذا وقف على الباب والله سبحانه

و تعالى اعلم بالصواب

امام الصوفیاء علامہ شیخ اکبر ابن عربی رحمة اللہ علیہ نے صاف تصریح فرمادی کہ ہمارے کتب تصوف کا مطالعہ کرنا حرام ہے مگر اس شخص کے لئے جائز ہے جو ہماری جماعت پاکیزہ جیسے اخلاق ظاہری و باطنی رکھتا ہو اور ہمارے اصطلاحات صوفیاء کے مطابق ہمارے کلمات تصوف کی تشریح کر سکتا ہو۔ اس قسم کے لوگ کیا بتوہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ شخص مستحق مطالعہ ہو سکتا ہے جو جد و جهد اور بد اخلاقی سے پرہیز کرے اور علوم ظاہری سے میلان کر کے علوم بطور کی طرف رجوع کرے (یعنی علوم ظاہری کے اسرار تلاش کرے اور علوم ظاہری سے سیراب ہو کر میلان علوم باطنیہ رکھتا ہو اور اخلاق حسیہ دنیاوی و آخری سے پاک ہو وہ شخص خوش نصیب ہے جو ہمارے خطابات کا مستحق ہے اور ان کے لئے دروازہ مطالعہ کتب تصوف کھلا ہوا ہے۔

قاعدہ: صوفیہ کرام پر تنقید و اعتراض حرام ہے جو ان پر تنقید یا اعتراض کرتا ہے وہ محروم القسمت ہے چنانچہ یہی علامہ شیخ احمد شہاب الدین ابن حجر الہیتمی المکی فتاویٰ حدیثیہ مطبع مصری صفحہ ۵۹ پر ارشاد فرماتے ہیں۔

و یبغی الانسان حيث امکنه عدم الا نقاد على السادة الصوفية نفعنا الله بمعارفهم و افاض علينا

بواسعة حجتنا لهم ما افاض على خواصهم ونظمنا في سلك اتباعهم ومن علينا بسبعين عوارفهم ان
يسلم لهم احوالهم ما وجد لهم محملا صحيحا يخر جهنم عن ارتكاب المحرم وقد شاهدنا من بالغ في
الانتقاد عليهم مع نوع تعصب ما ابتلاه الله بالا نحطاط عن مرتبته وازال عنه عوائذ لطفه و اسرار
حضرته ثم اذا قه الهوان والذلة و راده الى اسفل سافلين و ابتلاه لكل علة و مهنة فنعوا ذبك اللهم من
هذا القواسم المرهفات والبراتر المهلكات ونسألك ان تنظمنا في سلكهم القوى المتين وان تمن
علينا بما متنست عليهم حتى تكون من العارفين والائمۃ المجتهدین انك على كل شئ قدیر وبالا
جاية جدیر۔

لیعنی علامہ ابن حجر قتاوی حدیثیہ صفحہ ۵۹ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ جہاں تک ہو سکے جماعت
سادات صوفیاء کرام پر اعتراض نہ کیا کریں۔ بلکہ دعا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے معارف سے ہمیں نفع بخشنے اور ان کی محبت
کی بدولت وہ فیضان الہی جو خواص صوفیاء کرام پر بر سائے ہیں ہم پر بھی بر سائے اور ہمیں ان کے تابع داروں میں شامل
فرمائے اور عرفان کامل ان عرفاء کاملین سے ہمیں احساناً کچھ مرحمت فرمادے بلکہ ان کے حالات کو ان کے پرد کروں۔
جہاں تک ممکن ہو ان کے محل صحیح تلاش کیا کریں اور محل بھی ایسے جن سے ان کے دامن عصمت محارم شرعیہ سے محفوظ
جائیں اور ہر طرح لفظی گرفت سے مبراہوجائیں کیونکہ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جس شخص نے متعصبا نہ رنگ میں صوفیاء
کرام کا مقابلہ کیا وہ فوراً ہی اس دنیا میں امتحان و عذاب الہی میں بتلا ہو کر اپنی ایمانی منزل کو بر باد کر بیٹھا اور لطف الہی و اسرار
الہی کے مراتب سے محروم رہا۔ الثابر بادی اور ذلت میں بتلا ہو کر ہر مشقت و بیماری کا شکار ہو کر اسفل السافلین ہوا۔ ہم پناہ
ما نگتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس فتنہ کی شکستگی اور بے برکتی سے ہمیں بچا کر ان کے غلاموں میں داخل فرماؤ جو جو
احسانات ان بزرگوں پر فرمائے ہم پر بھی فرماتا کہ اس نسبت متبرکہ کے ذریعہ ہم عارفین کاملین و ائمۃ مجتهدین میں شمار کئے
جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہمارے جیسے غیر مستحقین کی دعا قبول فرمائے۔ آمين

علامہ ابن حجر ایتیمی المکی فتاویٰ حدیثیہ صفحہ ۲۰ پر ارشاد فرماتے ہیں

ولقد قال قدس الله سره و نور ضريحه نحن قوم تحرم المطالعه في كتبنا الا لعارف باصطلاحنا
فانظر كيف هذا نص صريح من الشيخ بتحير يم المطالعه على هؤلاء الجهلة المغر وبين المستهزئين
بالدين۔

حضرت امام اولیاء امت مرحومہ حضرت شیخ اکبر ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کی کتابوں کا

مطالعہ کرنا حرام ہے بجز ان علماء کرام کے جن کو ہماری اصطلاحات کا علم ہے۔ ہر کہ وہ کو اجازت نہیں۔ ورنہ ہر غلط فہمی کے وہ ناقص اعلم ذمہ دار ہوں گے جو ہماری اصطلاح سے نابلد ہیں۔

آگے چل کر علامہ ابن حجر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھا حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح صراحةً جہلاء مغرور ٹھنٹھے بازان دین کو روک ٹوک کی ہے پھر بھی بے سمجھ لوگ نہیں رکتے۔

ازالۃ وهم

دیر حاضرہ میں صوفیاء کرام کو بدنام کر کے عوام کو باور کرایا جا رہا ہے کہ صوفیہ ایک گمراہ گروہ کا نام ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں حالانکہ یہ صوفیہ کرام کو گمراہ کہنے والے خود بہت بڑے گمراہ ہیں اس لئے کہ صوفیاء کرام بہت بڑے ائمہ و مشائخ اور اولیاء عظام ہیں اگرچہ فقه و دیگر اصطلاحات فنون اسلامیہ کے اسماء کی طرف تصوف و صوفی کی اصطلاح خیر القرون کے بعد متعین ہوئی لیکن اس کی اصلیت تو خیر القرون میں سے ہے۔

اصطلاح تصوف اور اس کے اصول و ضوابط

فقیر کی مذکورہ بالاقریر سے ثابت ہوا کہ تصوف اور اسکے اصول و ضوابط کے اسماء صدی اول و دوم و سوم میں مرتب ہوئے اور تا حال دوسری شرعی اصول و ضوابط کے اسماء کی طرح مسلسل مستعمل ہو رہے ہیں چنانچہ خیر القرون کے بعد جمیع الاسلام امام غزالی سے منقول ہے **الملاء عن اشکالات الاحیاء ۲۹** بہامش الاحیاء میں ہے

الوجود مصارفة القلب بصفاء ذکر کان قد فقدہ۔

یعنی وجود کثرت ذکر اللہ و اوراد سے جو کیفیات و پہیہ لدنیہ میں جانب اللہ تعالیٰ نازل ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے

والتواجد استدعا للوجود والتشبه في تکلفه بالصادقين من أهل الوجود۔

تو اجد اصلی میں استدعا و وجود کہتے ہیں۔ صادقین و اجدین کے ساتھ تجھے بالتكلف سے آہستہ آہستہ حاصل ہوتا ہے۔

الوجود تمام وجود الواجبين -

یعنی تمام و کمال وجود اجدین کے بعد جو حالت پیدا ہوتی ہے وہ وجود ہے۔

فائدہ: وجود و تواجد اور الوجود تینوں اصطلاحات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمائی ہیں۔ ان کے بعد ہر زمانہ میں اس کا استعمال ہوتا رہا۔ ان کے بعد حضرت شیخ الشیوخ سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی بانی سلسلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکی عن بعض الملامیۃ انه استدعا الى سماع فامتنع فقيل له في ذلك فقال لا نی ان حضرت یظهر على وجود ولا اوثر ان یعلم احد حالی۔ (عوارف المعارف علی ہامش الاحیاء جلد اول صفحہ ۳۲۳)

یعنی بعض ملامیہ اولیاً وں میں سے کسی بزرگ کو دعوتِ سماع دی گئی وہ حضرت تشریف نہ لائے اس سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آپ کو دعوت بھی دی گئی اور آپ شاملِ محفلِ سماع نہ ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کوئی عذر نہ تھا۔ صرف رکاوٹ یہ رہی کہ اگر میں مجلسِ سماع میں آتا تو مجھے وجد آتا تھا اور میں اپنے مقامِ معرفت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا فرقہ ملامیہ کے خلاف سمجھتا تھا اس لئے حاضر نہ ہو سکا یعنی وجد تو جائز ہے لیکن چونکہ اس سے مقامِ سالک ظاہر ہو جاتا ہے اس لئے اپنے ذاتی فائدہ کے لئے غیر حاضر ہا اور نہ شرعی رکاوٹ تو نہ تھی صرف اپنا مشرب بھی مدنظر تھا۔

ثبوت وجد و دھمائل از دلیل عقلی

تصوف، صوفی اور ان کے اصطلاحات یہ ہیں جیسے فقہ اور فقیریہ، فنِ حدیث اور محدث، نحو اور نحوی۔ صرف اور صرفی اور الہحدیث والی قرآن اور منطق، منطقی جیسی اصطلاحات برداشت ہیں تو صوفی، تصوف اور اس کی اصطلاحات قبول کرنی پڑیں گی جو فقہ اور اس کی اصطلاحات کا مذکور ہے اور اسلام کا دشمن ہے تو ایسے ہی تصوف اور صوفی کا دشمن ہے جو اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور دشمنانِ اسلام سے ہماری جنگ ہے۔

ثبت تواجد: عن عبد الله ابن عمر قال أشتكى سعد بن عبادة شكوى له فاتاه النبي ﷺ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غاشيته قد قضى قالوا لا يار رسول الله فيكى النبي ﷺ فلما رأى القوم بكماء النبي ﷺ بكوا فقال إلا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار الى لسانه اوير حم وان الميت ليعذب بيكماء اهله (متفق عليه۔ مشکوحة ص ۱۵۰)

یعنی عبد اللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ بیکار ہوئے حضور اکرم ﷺ میں چند صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم طیع پر ہی کے لئے تشریف لائے ان کی آخری حالت کو دیکھ کر روئے صحابہ کرام حضور ﷺ کو روتے دیکھ کر اس رحمت میں شامل ہو گئے۔ نیز حضور معظم ﷺ نے ارشاد فرمایا آنکھ کے روئے یا دل کے مغموم ہونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر میت ورثاء کو باقاعدہ رونے رلانے کی تائید کر جائے تو اس ناجائز وصیت پر اس کو قبر میں باز پرس ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب صحابہ کرام کو دیکھو کس طرح شامل ہو گئے ہیں۔

فائده: اس حدیث پاک میں سچے اور صحیح وجد کا واضح ثبوت ہے اسی کیفیت کا نام وجد ہے اور غلط وجد کی بھی نہ ملت اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ اس کیفیت نبوی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام وجد ہے۔ ثابت ہوا کہ خیر القرون میں

وجد تھا لیکن نام بعد کو رکھا گیا تو کام نہیں بگڑا۔

دهمال کا جواز

دهمال سے میری مراد صوفیہ کرام کا رقص ہے نہ کہ جو عوام میں ناچنا بھنگڑا ذالنایہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ صوفیہ کرام کا دھمال روحانی و جدائی امر ہے کہ جب ان پر وجود ای کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ سرور و فرحت سے متحرک ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی یہ حرکت اسی عرفی رقص کے مشابہ ہو جاتی ہے ظاہری مشابہت کی وجہ سے صوفیہ کرام کی روحانی کیفیت کا نام دھمال رکھا گیا اور یہ کوئی برائی نہیں اس لئے کبھی اچھے کاموں کا اصطلاحات غیر وہ پر مستعمل ہوتی ہیں۔

دهمال کا لغوی و شرعاً معنی

دهمال کے معنی پائے کو قتن پائی دویدن۔

علامہ زماں فرید الدہر وحید اور ان بقیہ المحدثین خاتمة الفقهاء والحمد شیخ احمد شہاب الدین ابن حجر یتیمی کی فتاویٰ حدیثیہ مصریہ صفحہ ۲۱۲ پر ارشاد فرماتے ہیں۔

سئل نفع اللہ بہ عن رقص الصوفیہ عند تواجدہم هل له اصل اجابت بقوله نعم له اصل فقد روی فی الحديث ان جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رقص بین يدی النبی ﷺ لما قال له اشتبهت خلقی و خلقی و ذلك من لذة هذا الخطاب ولم ينکر عليه ﷺ وقد صح القیام والرقص فی مجالس الذکر والسماع عن جماعته من کبار الائمه منهم عزالدین شیخ الاسلام بن عبد السلام۔

علامہ ابن حجر یتیمی کی سے صوفیاء کے رقص اور تکلف سے وجد کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کا ثبوت اور اصل ہے یا نہ؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کا اصل ایک حدیث ہے جو کہ بایں مضمون احادیث شریفہ میں آیا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم میرے مشابہ ہو پیدائش میں عادات میں۔ اس خطاب کے ذوق میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رقص کرنے لگے گئے۔ آنحضرت ﷺ نے روا کا (نہ رونا حضور ﷺ کا کسی فعل کو اس کے حدیث تقریری ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے) علامہ ابن حجر اس سے آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ رقص کے وقت مجالس ذکر و سماع میں کھڑا ہو کر شامل رہنے کو ایک بڑی جماعت کبار ائمہ دین کی طرف نسبت فرمادی اور امام ابن عبد السلام کا مذہب بھی یہی لکھا۔ اب اس سے اور کیا زیادہ تحقیق ہونی چاہیے جس میں حضور خاتم الانبیاء ﷺ جسی دنیات مقدس بھی موجود ہوں اور رقصی ہو رہی ہے اور انکارتگ نہ ہو۔

توضیح : (۱) حضرت امام غزالی قدس سرہ کیمیائے سعادت صفحہ ۲۲۹ مطبوع نوکٹور میں لکھتے ہیں۔

چرقص مباح است کہ زنگیاں در مسجد رقص مے کروندہ عائشہ رضی اللہ عنہا بے نظارت رفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعلیٰ کرم اللہ وجہہ گفت کہ تو از منی و من از تو۔ حضرت علی از شادی ایں رقص کر دیجئے اور پار پائے بزر میں زد۔ چنانکہ عادت عرب باشد کہ در شادی و نشاط کنند۔ وبا جعفر رضی اللہ عنہ گفت یامن مائی بخلق و خلق او نیز از شادی رقص کر دیز یہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ را گفت تو برادر و مولاۓ مائی از شادی رقص کر دیں کے کہ میگوید۔ ایں حرام است خطامی کند۔

یعنی رقص کرنا مباح ہے کیونکہ چند لڑکے زنگی مسجد میں رقص کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان کے رقص کو دیکھ رہی تھیں۔

(یہ دیکھنا صرف حالت رقص کا تھامی بی نے صرف حالت کو دیکھا رقص کرنے والوں کو نہیں دیکھا تھا تفصیل فقیر کی کتاب ”اسلامی پردہ“ میں پڑھیئے۔ اولیٰ)

نیز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خوشی میں آ کر دھماں کیا اور چند بار پاؤں زمین پر مارے چنانچہ اہل عرب کی عادت ہے کہ بموقعہ خوشی و نشاط پاؤں زمین پر مارا کرتے ہیں۔ نیز حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو پیدائش اور خلق میں ہمارے ساتھ معیت رکھتا ہے۔ اس سخن کی لذت سے حضرت جعفر دھماں کرنے لگے۔ نیز حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور انور مظہر انوار الہبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم ہمارے دوست اور بھائی ہو۔ زید بن حارثہ اس فضل الہبی پر شاداں ہو کر دھماں کرنے لگے جن لوگوں نے مطلقاً دھماں کو حرام کہا غلط کہا۔

(۲) صاحب نبراس شرح العقائد للسعدي الفتاوا فتح الہدیۃ مطبع ہاشمی میر ثٹھ صفحہ ۵۶۲ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

ان قلت تد حکی عن الغظب الا عظم عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز انه قالی حفنا بحر ا وقف الانبیاء علی سا حلة۔ قلت ارادا حوال الفن لا يحسن مدورها عن الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین کالو جدوا هق والشطحيات فان الحق سبحانه و تعالى حفظ الا نبیا عنها بتوسيع بواطنهم و كانت تجري فيها بحار العشق و الذوق ولا يغلب عليهم الا حوال والحكمة فيه انهم اهل مكانته و رزانه و قدوة فحفظوا اعملا لا يحسنهم العوام۔

سوال: شیخ عبدال قادر جیلانی محبوب سجافی قطب اعظم یعنی حضور غوث اعظم سیدی عبدال قادر جیلانی قدس سرہ میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم دریائے معرفت کو پار کر گئے جن کے کناروں پر انبیاء علیہم السلام تھے ہوئے تھے۔ یہ ایک سوال ہے۔

جواب: میں کہتا ہوں اس عبور سے مراد ان حالات کا مراد ہے جن حالات کا نبیاء علیہم السلام سے صادر ہوتا ہے نظر عوام الناس اچھا نہیں ہے۔ جیسا وجد کرنا یاد ہمال کرنا یا مغلوب الحال میں شطحیات کا صادر ہوتا اگر چہ ان کے سینہ مبارک میں بے انتہا دریائے عشق و محبت الہی ہے لیکن ان پر حالات کا غلبہ نہیں ہوتا بلکہ وہ حضرات حالات پر غالب رہتے ہیں۔ اس میں حکمت الہی یہ ہوتی ہے کہ جماعت انبیاء علیہم السلام محترم المقام مقتدائے خواص و عوام ہو کر تشریف لاتے ہیں۔ ان پر ہلاکا پن اور سکساری کے نشانات نہیں پائے جاتے۔ چیخنا چلانا و ہمال و جد اولیاء امت کی شان ہے۔ حنات الابرار سینات المقر میں یعنی بزرگوں کی نیکیاں مقربین ایز و متعال کی اضافی غلطیاں ہوتی ہیں۔ گوجد و ہمال اپنے مقام پر سلطنت معرفت و طریقت کے مدارج علویہ میں سے ہیں۔ عارف رومی فرماتے ہیں۔

آنہاں نسبت به عرش آمد فرود لیک بس عالیست نسبت خاک تود
لیکن نسبت نبوت و رسالت عوام کی لگا ہوں میں نامناسب تھے۔

اس لئے انبیاء علیہم السلام کنارہ پر پھرے رہے اور ان مقامات کو اولیاء امت نے عبور کرتے ہوئے جماعت انبیاء علیہم السلام کی دعائیں حاصل کیں۔

انتباہ: شرعی ہمال ہو یا شطحیات اولیاء کرام ان پر اعتراضات کرنا محرومی ہے کیونکہ یہ امور اولیاء کا ملین کے لئے جائز ہیں اور ان کے محل شرعی اصول پر ہوتے ہیں۔ تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب ”تحقيق الأکابر فی قدم الشیخ عبد القادر“

تصوف و صوفی کی وجہ تسمیہ

عارف امام شہاب الدین سہروردی متوفی ۶۳۲ھ ”عارف المعارف“ بر حاشیہ احیاء علوم الدین جلد اول مصری صفحہ ۱۹۲ میں فرماتے ہیں۔

قال اخبرنا الشیخ ابو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر قال اخبرنا ابو على الشافعى بمكة حرسها الله تعالى قال انا احمد بن ابراهيم قال انا ابو جعفر محمد بن ابراهيم قال انا ابو عبد الله المخزومى قال حدثنا سفيان عن مسلم عن انس بن مالك قال كان رسول الله عليه يحيى دعوة العبدوير كب الحمار و يلبس الصوف فمن هذا الوجه ذهب قوم الى انهم سمو! صوفيه نسبة لهم الى ظاهر اللسبة لا نهم اختار و البس الصوف وايضا قال الحسن البصري لقد ادركت سبعين بدر يا كان لباسهم الصوف و ايضاً صفهم ابو هريرة و فضالة بن عبيد فقال كانوا يحزون من

الجوع حتى تحس بهم إلا عراب مجانين وكان لباسهم الصوف.

باستاد متصل طویل مذکور الصرد کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب رسول معظم و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اغلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے اور گدھی کی سواری بھی کر لیتے تھے اور لباس پشم بھی زیب تن فرماتے تھے۔ اس لئے قوم صوفیاء کرام نے لباس پشم کو پسند فرماتے ہوئے پہننا شروع کر دیا اور اپنے فرقہ عالیہ کو امتیازی نام صوفیاء مرحمت فرمایا اور اسی طرح امام ذی مقام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ستر صحابہ بدرا یوں سے ملاقات نصیب ہوئی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) جن کا لباس شریف صوف کا تھا یعنی پشم کا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ و حضرت فضالہ بن عبید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھوک سے گاہے گا ہے زمین پر گرجاتے تو دیہاتی لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے اور لباس شریف ان کا پشم کا تھا۔

سید الشرعاً گنجوی فرماتے ہیں

تهید است سلطان پشمینہ پوش غلامی خرد بادشاہی فروش

یہ وہ بادشاہ ہیں جو بظاہر خالی ہاتھ اور پشمینہ پوش ہیں اور فقیری کے خریدار ہیں اور بادشاہی یچنے والے۔

جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے اقوال و احوال سن کر خلافت سے دستبرداری کا اظہار فرمایا تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب ”ذکر اولیس“ یا جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے دکھلایا کہ شاہی چھوڑ کر فقیری اختیار فرمائی۔

تصوف و صوفی

انہی شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ”عوارف المعارف“ صفحہ ۲۸۹ بہامش الاحیاء میں فرمایا کہ التصوف ذکر مع اجتماع و وجود مع استماع مع اتباع۔ یعنی تصوف کس کو کہتے ہیں صرف تین جملے ہیں۔ جہاں اجتماع ذکر خدا ہو وہاں شامل رہنا۔ جہاں استماع قبل حسن ہو وہاں حالات و کیفیات وجود یہ بھی ہو اور جب موقعہ عمل بالاسلام آئے تو اتباع نبوت و اتباع سلف صالحین ہو۔ جس شخص میں یہ نشانات پائے جائیں وہ اہل تصوف ہے۔

دلائل وجد

حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و احادیث سے وجد کے ثبوت کے لیے دلائل قائم فرمائے ہیں وہ یہ ہیں

(۱) الا بذكر الله تطمئن القلوب۔ (الرعد) ۲۸

ترجمہ کنز الایمان : سن لواللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔

فائده : ذکر اللہ سے قلوب کا چین مل گیا وجد کی کیفیت دل کے چین کی دلیل ہے کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دنیوی امور کی خرایوں سے آزاد ہو گیا ہے شفاء شریف میں ہے ذکر اللہ سے رسول اکرم ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنہیں حضور ﷺ کی نعمت اور صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے مناقب سننے پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس آیت کے مصدق ہیں۔ (اضافہ اویسی غفرلہ)

(۲) اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشا بها مثانی تفسیر منه جلود الذین يخشون ربهم تم تلين
جلود هم و قلوبهم الى ذكر الله۔

ترجمہ : اللہ نے اتری سب سے اچھی کتاب کا اول سے آخر تک ایک سی ہے۔ دوسرے بیان والی ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یادِ خدا کی طرف رغبت میں۔ طہانیت اور بدن پر روؤں کا کھڑا ہو جانا اور خوف اور دل کی نرمی جوان دو آیات میں مذکور ہیں وہ وجد ہی تو ہے اس لئے کہ وجد وہی ہوتا ہے جو سننے کے بعد نفس میں پایا جائے۔ (احیاء)

تفسیر : حضرت صدر الافق فیض الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکرِ اللہ سے ان کے بال کھڑے ہوتے جسم لرزتے ہیں اور دل چین پاتے ہیں۔ (خزان)

تبصرہ اویسی غفرلہ : ایسی صفات کے متفق میں کا وجد کتابوں میں پڑھا اور بڑوں سے سنا اور پھر اپنے زمانہ میں بہت سے خوش بختوں کو دیکھا فلہمذہ وجد کی کیفیت کا انکار سورج کے وجود کے انکار کے مترادف ہے۔

(۳) انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت عليهم ایته زادتهم ایمانا و على
ربهم یتوکلون۔ (پ ۹ الانفال)

ترجمہ : ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اُس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔

(۴) و انزلنا هذا القرآن على جبل لرائیته خاشعاً متصدعاً من خشیة الله۔ (پ ۱۲۸ الحشر آیت ۲۱)

ترجمہ : اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ (کنز الایمان)

فائده : ان آیات میں حالات کے قبیل سے خوف اور خشوع وجد ہے اگرچہ مکاشفات کے قبیل سے نہیں مگر کبھی مکاشفات

اور تنبیہات کا سبب ہو جاتا ہے۔ (احیاء العلوم)

(۵) و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول نرى اعنهم تفیض من الدمع مما عر فوامن الحق۔

(پارہ ۷، المائدہ آیت ۸۳)

ترجمہ کنز الایمان : اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اتران کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں اس لئے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔

فائده : حضرت صدر الافاضل قدس سرہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ قرآن مجید پروجد کرتے ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔

تفسیر : حضرت صدر الافاضل قدس سرہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا۔

یہ آن کی رقت قلب کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے دل میں اڑ کر نیوالے مضافین سن کر روپڑتے ہیں چنانچہ نجاشی بادشاہ کی درخواست پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اُس کے دربار میں سورہ مریم، سورہ طلحہ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو نجاشی بادشاہ اور اُس کے درباری جن میں اُس کی قوم کے علماء موجود تھے سب زار و قطار رونے لگے اسی طرح نجاشی کی قوم کے ستر آدمی جو سید عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حضور ﷺ سے سورہ یسوس سن کر بہت روئے۔ (خزانہ)

حضرت الامام اسماعیل الحنفی لکھتے ہیں کہ اسلام میں نئے لوگ شریک ہوئے تو قرآن مجید سن کر روتے آہیں بھرتے گریہ وزاری کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابتدائے اسلام میں ہماری بھی یہی کیفیت تھی لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے۔

انتباہ : اس سے وہ سختی مراد نہیں جو عام مشہور ہے بلکہ قصاصة قلبی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دل اطمینان و سکون کے انتہائی مرتبہ کو پہنچ چکے ہیں۔ اس لئے اب گریہ وزاری ہمارے قلوب کو لا جتنیں ہوتا۔ (روح البیان)

مزید تحقیقی جوابات امام غزالی قدس سرہ نے احیاء العلوم میں لکھے ہیں۔ جن کی تفصیل آخر میں آتی ہے۔

احادیث مبارکہ

(۱) حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ زینت و قرآن کو اپنی آوازوں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا اوتی مزمار امن مزامیر آل داؤد علیہ السلام۔ دیئے گئے ابو موسیٰ ایک نغمہ داؤد علیہ الاسلام کی خوش آوازوں سے۔

فائده : خوش آوازی ایک نعمت ہے اور اسی سے ہی دل کی روشنی و رونق میں اضافہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خوش الحانی سے

قرآن مجید پڑھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت خوانی سننے پر وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ (اویسی غفرلہ)

(۲) مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک میں ایسا جوش ہوتا جیسے ہندیا کے کھد بدھونے کی آواز ہوتی ہے۔

فائڈہ : یہ نماز میں وجد کا ثبوت ہے لیکن اتنا کہ جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے جو لوگ عمداً نماز میں حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ہال بے ساختہ کوئی عمل سرزد ہو تو حرج نہیں۔

(۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شیستی سورۃ ہود" یوڑھا کر دیا مجھ کو سورۃ ہود نے۔

فائڈہ : یہ بھی وجد کی خبر ہے اس لئے کہ بڑھا پا ہزن اور خوف سے ہوتا ہے اور ہزن اور خوف وجد میں داخل ہیں۔

(۴) مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نساء پڑھی جب آپ اس آیت پر پہنچے فكيف اذا جئنا من كل امة لشهيد و جئنا بك على هولاء شهيداً۔ (النساء آیت ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان : تو کیسی ہوگی جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لا کیں اور اے محبوں تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بناؤ کر لائیں۔

آپ نے فرمایا بس کرو اس سے آپ کی دونوں آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا کسی اور شخص نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی

ان لدینا انکالا وجحیما و طعاماً ذا غصہ و عذابا الیما۔ (المزمول ۱۱۳)

ترجمہ کنز الایمان : بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھستا کھانا اور دردناک عذاب۔ تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کر روئے۔

يَعْذِبُهُمْ فَانْهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

ترجمہ : تو ان کو عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر ان کو معاف کرے تو تو ہی زبردست حکمت والا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آیت رحمت پر گذرتے تو دعا مانگتے اور بشارت کی درخواست کرتے۔

فائڈہ : ظاہر ہے کہ بشارت کی التجاء وجد ہے۔ (احیاء العلوم)

قاعدہ : اس طرح کی روایات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکایات سے وجد کا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

حکایات

جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دل کو قرآن سننے سے وجد ہوا ہے وہ بھی بکثرت ہیں۔ صحابہ اور تابعین نے جو

قرآن پر وجد کیا ہے ان کی نقول بکثرت ہیں بعض نے معمولی حرکت کی اور کچھ روئے بیہوش ہو گئے اور بعض غشی کی حالت میں فوت ہو گئے۔

انکے واقعات و حکایات اگلے اوراق میں ملاحظہ ہوں۔

حکایت نمبر ۱ : حضرت زرارہ بن ابی اوی (تابعی) رقه (جگہ کا نام) میں نماز پڑھاتے تھے ایک رکعت میں آیت ہڑھی فاذا نَقْرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يوْمٌ مَنْذُ عَسِيرٍ۔ (پ ۲۹ المدثر ۹۸)

ترجمہ: پھر جب صور پھونکا جائے گا تو وہ دن کرا دن ہے (سخت ہے)۔

اس کو پڑھتے ہی بیہوش ہو کر گر پڑے اور محراب ہی میں فوت ہو گئے آپ تابعین میں سے تھے۔

حکایت نمبر ۲ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو پڑھتے سنا ان عذابِ ربک لواقع مالہ من دافع۔ (پ ۲۷ الطور ۷۷)

ترجمہ کنز الایمان : بے شک ترے رب عزوجل کا عذاب ضرور ہوتا ہے اسے کوئی نالئے والا نہیں۔

آپ نے ایک چیخ ماری اور بیہوش ہو کر گر پڑے لوگ آپ کو مکان پر اٹھا کر لے گئے۔ آپ مہینہ بھر بیمار رہے۔

حکایت نمبر ۳ : ابو حیرہ (تابعی) کے سامنے صالح مری نے قرآن کی چند آیات پڑھیں وہ چیخ مار کرفوت ہو گئے۔

حکایت نمبر ۴ : حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قاری کو پڑھتے سا هذا یوم لا ينطرون ولا یوذن لهم فیعتذرون۔ (المرسلات ۳۶:۳۵)

ترجمہ کنز الایمان : یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ آپ کو غش آگیا۔

حکایت نمبر ۵ : علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے تھے وہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے تھے معلوم کر لیا ہے اسی طرح بہت سے لوگوں کی حکایات منقول ہیں اور ایسا ہی صوفیہ کرام کا حال تھا اور ہے۔

حکایت نمبر ۶ : شبی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی کسی رات میں ایک امام کے پیچھے اپنی مسجد میں نماز پڑھتے تھے امام نے یہ آیت پڑھی و لَئِنْ شَنَا لَنْدَهِ بِالذِّي أَوْ حِينَا إِلَيْكَ۔ (بنی اسرائل)

ترجمہ کنز الایمان : اور اگر ہم چاہتے تو یہ وہی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے۔

حضرت شبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیخ ایسی ماری کہ لوگوں کو مگان ہوا کہ آپ کا طائر روح نفسِ غصہ سے پرواز کر گیا اور آپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور شانے تھرانے لگے اور یہی بار بار کہتے تھے کہ احباب کو ایسی ہی طرح خطاب کیا کرتے ہیں۔

حکایت نمبر ۷: حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو غش آیا ہوا ہے مجھ سے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سن کر اسے غش آگیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس پر وہی آیت دوبارہ پڑھو جب وہ آیت دوبارہ پڑھی گئی تو اس کو افاقہ ہو گیا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ مضمون تم نے کہاں سے سمجھا میں نے کہا کہ حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی بینائی کا ضعف مخلوق کی وجہ سے تھا یعنی (فرق یوسف علیہ السلام سے) تو مخلوق ہی کے سبب سے اچھی ہو گئی اگر آپ کی بینائی کا ضعف حق کے لئے ہوتا تو مخلوق کے سبب سے بینائی میں قوت نہ آتی۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کو اچھا کہا اور جو تمہیر کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی اسی کی طرف شاعر کا قول اشارہ کرتا ہے۔

و کاس شربت علی لذة و اخری تداویت منها باها

ترجمہ : میں نے پہلا پیالہ تولدت کی وجہ سے پیا لیکن دوسرا اس بیماری کے علاج کے لئے پیا۔

حکایت نمبر ۸: ایک صوفی نے فرمایا کہ میں ایک رات میں یہ آیت پڑھ رہا تھا **کل نفس ذاتۃ الموت**۔

ترجمہ : ہر جان کو موت چکھنی ہے۔

میں نے اسے مکرر پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ غیب سے ایک آواز آئی کہ کہاں تک اس آیت کو مکرر پڑھے گا اس سے تو نے چار جن قتل کر ڈالے جنہوں نے پیدائش کے وقت سے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا تھا۔

حکایت نمبر ۹: ابو معازی نے حضرت شبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بعض اوقات میرے کان میں کوئی آیت قرآن مجید کی پڑتی ہے تو مجھے دنیا سے اعراض کرنے کی طرف کشش کرتی ہے پھر جب میں اپنے کار و بار کے لئے اور لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہوں تو کیفیت مذکورہ باقی نہیں رہتی۔

حضرت شبی نے فرمایا کہ اگر قرآن سن کر تم متوجہ اور مائل الی اللہ ہوتے ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توجہ اور عنایت ہے اگر نفس کی طرف رجوع کرتے ہو تو یہ بھی اس کی شفقت اور رحمت ہے کیونکہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں تمہیں بجز اس امر کے اور کچھ شایاں نہیں کہ اپنی تدبیر اور قوت سے بری ہو جاؤ۔

حکایت نمبر ۱۰: کسی صوفی نے ایک قاری کو پڑھتے سایا **ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة مرضیة**۔

ترجمہ کنز الایمان : اے اطمینان والی جان اپنے عز و جل کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔

تو اس قاری سے دوبارہ پڑھوا کر کہا کہ نفس کو کب تک کہے جاؤں کہ رجوع کراور یہ رجوع نہیں کرتا پھر وجد میں آکر ایسی چیز ماری کہ جان نکل گئی۔

حکایت نمبر ۱۱ : بکر بن معاف نے کسی کو پڑھتے ساو اندر ہم یوم الاذفة۔

ترجمہ : اور خبر سادے ان کو نزدیک والے دن کی۔

تو مضطرب ہوئے پھر چیخ کر کہا کہ رحم کراس پر جسے تو نے ڈرایا اور ڈرانے کے بعد بھی وہ تیری طاعت پر متوجہ ہوا یہ کہہ کر آپ کو غش آگیا۔

حکایت نمبر ۱۲ : ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو یہ آیت پڑھتے اذا السماء انشقت (انشقاق)

ترجمہ کنز الایمان : جب آسمان شق ہو۔

سنستے تو آپ ایسے مضطرب ہو جاتے کہ گویا آپ کا بند بند کا نپتا ہے۔

حکایت نمبر ۱۳ : محمد بن صالح کہتے ہیں کہ ایک شخص فرات کے اندر غسل کرتا تھا اچانک ایک آدمی کنارہ پر یہ آیت پڑھتا ہوا نکلا و امتاز والیوم ایها مجر مون۔

ترجمہ : اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو۔

تو وہ نہانے والا تر پنے لگا یہاں تک کہ ڈوب کر مر گیا۔

حکایت نمبر ۱۴ : حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کسی جوان کو تلاوت کرتے دیکھا اور جب وہ ایک آیت پر پہنچا تو اس کے رو گئے کھڑے ہو گئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اس سے محبت ہو گئی چند روزا سے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال معلوم کیا کسی نے کہا کہ یہاں ہے آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے تو دیکھا وہ نزع میں ہے اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ کیفیت و جد جو کہ آپ نے میرے جسم پر ملاحظہ فرمائی تھی وہ اچھی صورت بن کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ بخش دیئے۔

خلاصہ : اہل دل قرآن سننے کے وقت بھی وجد سے خالی نہیں ہوتے اگر قرآن کا سنتا کسی میں کچھ اثر نہ کرے تو اس آیت کا مصدقہ ہے۔

کمثل الذى ينعق بما لا يسمع الدعاء و ندا صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ (البقرہ آیت ۱۷۱)

ترجمہ کنز الایمان : جو پکارتے ایسے کو کہ خالی چیخ پکارے سوا کچھ نہ سنبھال سکتے ہیں۔

بلکہ اہل دل کو تو کلمہ حکمت بھی اثر کرتا ہے۔

حکایت نمبر ۱۵: جعفر خلدی کہتے ہیں کہ ایک خراسانی صوفی حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ انسان کے نزدیک اس مدح سراہی اور برائی کہنے والے برابر کب ہو جاتے ہیں کسی نے کہا کہ جب آدمی ہسپتال میں جاتا ہے اور قیدوں میں مقید ہوتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواب تمہاری شان کے لاائق نہیں۔ پھر آپ نے اس خراسانی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہ حالت اس وقت ہوتی ہے کہ یقین کر لے کہ میں ایک عاجز مخلوق ہوں۔ خراسانی نے ایک چین ماری اور فوت ہو گیا۔

فائده: یہی وجد صادق کھلا تا ہے کہ نہ قرآن یا نعمت وغیرہ سے وجد ہو بلکہ جوبات بھی معرفت الہی کا نشان دے اسی سے وجد و حال کی کیفیت پیدا ہو جائے۔

حکایت نمبر ۱۶: ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ محبم الدین سیرانی اولیٰ حنفی قدس سرہ بازار سے گزر رہے تھے سبزی فروش آواز دے رہا تھا سوئے پالک سوکھا (یہ سبزیوں کے نام ہیں) آپ کو وجد آگیا بعد فراغت آپ سے پوچھا کہ ان الفاظ پر وجد کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا جو ایک پالک سوگیا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ کی اس طرح کی وجدانی کیفیات بکثرت مشہور ہیں اکثر فقیر نے ”ذکر سیرانی“ میں بیان کی ہیں۔

حکایت نمبر ۱۷: حضرت مولانا محمد یار صاحب گڑھی اختیار خان رحمۃ اللہ علیہ دوکان پر سودا لینے گئے آپ نے اپنی مطلوبہ شے کی طرف اشارہ کیا پھر دوسری کے متعلق پوچھا دوکاندار نے کہا ”امے او هک امے“ یعنی یہ اور وہ ایک ہے اس پر آپ کو وجد آگیا۔ بعد فراغت پوچھا گیا کہ آپ کو اس جملہ پر کیسے وجد آیا۔ فرمایا کہ وہ کہہ بیٹھا کہ یہ اور وہ سب ایک ہے آپ چونکہ ”وحدة الوجود“ کا مسلک رکھتے تھے اسی لئے آپ اپنے شیخ خواجہ خواجہ گان حاجی پیر خواجہ غلام فرید قدس سرہ کے اس شعر (ہک ہے ہک ہے جیز ہا ہک کوں ☆ ڈول کر جانے او کافر مشرک ہے) ”یعنی صرف ایک ذات ہی کا وجود ہے باقی تمام اشیاء معدوم ہیں اسی لئے جو ایک ذات کے وجود کی طرح دوسرا وجود مانتا ہے وہ کافر مشرک ہے“ پر منطبق کر دیا۔

حکایت نمبر ۱۸: حضرت ابو الحسنی ثوری رحمۃ اللہ علیہ کسی دعوت میں ایک جماعت کے ساتھ تھے ان لوگوں میں کچھ تذکرہ علمی ہونے لگا ابو الحسنی ثوری خاموشی سے سنتے رہے یکبارگی سراٹھا کر اس مضمون کے اشعار پڑھے۔

ذات شجو صدحت فی فتن	رب ورقاء ه توف فی الضھی
ویکابا باما ارقنی	ذکر الفادو برا صالحا
تشکو فما تضھمنی	ولقد اشکو فما افهمها
وھی ایضاً بالجوى تعرفتی	غیر انی بالجوى اعر فها

ترجمہ: صبح کو فاختہ (دل باختہ) نغمہ کو کوئے اپنا زخمی دل مزید زخمی کر رہی تھی۔ یاد کرتی تھی محبوب کو اپنے اچھے اوقات کو روک رکا پنا اور میرا غم بڑھاتی تھی کچھ میں اپنے رونے سے اس کا دل زخمی کرتا اور بھی وہ روک رکا دل زخمی کرتی تھی۔ جب میں شکوہ شکایت کرتا تو وہ کچھ نہیں سمجھتی تھی اور وہ شکوہ شکایت کرتی تھی تو میں بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا سوئے اس کے کہ وہ مجھے عشق کا زخمی سمجھ کر دیکھتی رہی اور میں بھی اسے عشق کے صد مات کی ماری سمجھ کر دیکھا رہا۔

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے وجود نہ کیا ہوا اور یہ وجود ان کو اس علم سے ہوا جس میں وہ بحث کر رہے تھے حالانکہ وہ علم بھی یقینی اور حق ہی تھا۔

حکایت نمبر ۱۹: حضرت ابو الحسن دراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد شریف میں حضرت یوسف بن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور سلام کے لئے سفر کیا جب شہر میں داخل ہوا تو جس سے ان کا حال پوچھا اس نے یہی کہا کہ اس زنداق سے تم کو کیا کام ہے میرا دل تنگ ہوا یہاں تک کہ واپسی کا ارادہ کیا پھر دل میں سوچا کہ اتنا بڑا سفر کیا ہے کم از کم انہیں دیکھ تو لمعلومات کر کے آپ کے پاس گیا میں نے دیکھا آپ مسجد کی محراب میں بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ نہایت خوبصورت اور چمک دمک اور مقطع داڑھی والے ہیں میں نے سلام کیا میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا بغداد سے پوچھا کس لئے آئے ہو میں نے کہا کہ آپ کی زیارت کے لئے۔ فرمایا اگر بالفرض ان شہروں میں جہاں سے تم آئے ہو کوئی کہتا کہ تم ہمارے پاس ٹھہر جاؤ ہم تمہارے لئے مکان یا لونڈی خرید کر دیتے ہیں تو یہ تمہارے آنے سے مانع ہوتا میں نے کہا ب تک تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان کسی بات سے نہیں لیا لیکن اگر اس طرح ہوتا تو نہ معلوم اس وقت میں کیسا ہوتا پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ تجھے کچھ گانا آتا ہے میں نے کہا ہاں فرمایا سناوہ میں نے یہ قطعہ پڑھا

راتیک یہ نینی الیک تبا عدی ☆ فب اعدت نفس فی ابتعاد التقرب

راتیک تبني دائم فی فبعتنی ☆ ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني

ترجمہ: میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ ترا بعد مجھے قریب کر رہا ہے تقرب کی طلب سے میرا نفس بعید ہو گیا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو ہمیشہ میرے فرق کی سوچتا ہے اگر واقعی تم اس کا پختہ ارادہ رکھتے ہو تو جو تم نے سوچ رکھا ہے اس کا خیال چھوڑ دے (میں تیری رضا پر راضی ہوں) میرے اشعار سن کر آپ جس قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اسے بند کر کے اتنا روئے کہ داڑھی اور رومال تر ہو گیا حتیٰ کہ ان کے روئے کی کثرت سے مجھے بھی ان کے حال پر ترس آگیا۔ پھر فرمایا کہ بیٹا لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف زنداق ہے اور میرا یہ حال ہے کہ صبح کی نماز سے قرآن مجید پڑھتا تھا مگر میری آنکھ

سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور ان اشعار سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ (احیاء العلوم)

نوث : اس قسم کی حکایات بے شمار ہیں احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، رسالہ قشیریہ، قوت القلوب، کشف الحجوب و دیگر کتب کا مطالعہ کیا جائے۔

سوالات و جوابات

معترض اعتراض میں مجبور ہوتا ہے یا تو اسے حقیقت حال کا علم نہیں ہوتا لیکن جب حقیقت حال کا اسے علم ہو جاتا ہے تو مطمئن ہو کر عند اللہ ماجور ہوتا ہے۔ اگر محض ضد اور قلبی مرض و شفی کے باوجود اعتراض کرنے سے باز نہیں آتا تو سمجھ لو کہ اسکے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے۔ **”فِي قَلْوَهُمْ مَرْضٌ فَزَادُهُمُ اللَّهُ مَرْضًا“**
ذیل میں چند سوالات و جوابات حاضر ہیں۔

سوال : بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ واحدِ دین وجد کے وقت کپڑا اور غیرہ سنبھالتے ہیں پھر کیوں کریے مان لیا جائے کہ یہ لوگ بے اختیار ہیں؟

جواب : شیخ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اس کی مثال یہاں کسی ہے، یہاں دیکھتا سنتا ہے، پہچانتا بھی ہے، مگر ہائے وائے اور حرکات اضطرابیہ سے بھی نہیں رک سکتا، اس کی دلیل قرآن پاک سورہ یوسف آیت ”فلamar آیتہ کروکبة (الایة)“ میں ہے ملاماتِ مصر ہاتھ بھی کاٹ رہی ہیں جو بے ہوشی پر دلیل ہے اور ”Hash اللہ ما هذ البشرا“ یعنی پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یوسف علیہ السلام بشر نہیں بھی کہہ رہی ہیں تو یہی حال واحد کا ہے۔ آیت ذیل سے یہ تصریح نماز میں رونا اور گرنا ثابت ہے۔

اذا يتلى عليهم يخرون الا ذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لم يفعولا۔

(پ ۱۵: بنی اسرائیل)

ترجمہ : جب اس کو ان کے پاس پڑھئے گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل اور کہتے ہیں، بے شک ہمارے رب کا وعدہ البتہ ہوتا ہے۔

فائدة : اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سجدہ میں بے ہوش ہو کر گرتے ہیں۔ **يَخْرُونَ لِلَا ذَقَانَ غَائِتَ**۔ عشق اور خوف اور خشیت سے مراد ہے اس آیت کے الفاظ ”**وَيَقُولُونَ سَبَّـا... إِلَـخَ**“ اس اعتراض کا بھی قلع قع ہو گیا کہ جب واحدِ دین دیکھتے سنتے پہچانتے اور بسا اوقات پانی بھی طلب کرتے ہیں تو ان کو بے ہوش اور بے اختیار کیوں کہا جائے؟ کیونکہ ان کا **سَبَّـا... إِلَـخَ** کہنا بے ہوشی کی حالت میں

ہی ہے ”بخاری شریف مطبوعہ دہلی صفحہ نمبر ۹۹ میں حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے مرض الموت میں فرمایا **مراد ابا بکر** یصلی بالناس یعنی ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ان ابا بکر اذا اقام فی مقامك لم یسمع الناس من البکاء یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آپ کی جگہ میں کھڑے ہوں گے تو بہ سبب رونے کے لوگوں کو قرأت نہ سنائیں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عرض کرنے کے بعد پھر حضور ﷺ نے یہی حکم دیا کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ہی کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام کے رونے سے نہ مقتدیوں کی نماز میں کوئی خلل آسکتا ہے نہ امام کی نماز میں خواہ امام اتنا روئے کہ اس کی قرأت کی سمجھ بھی نہ آئے اگر رونے سے نماز فاسد ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صاف عرض کرتیں کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) رونے سے لوگوں کی نماز فاسد کریں گے مگر عرض کیا کہ لوگوں کو قرأت نہ سنائیں گے جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ حضور اکرم ﷺ اور جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ”بخاری شریف کے اسی صفحہ میں عبد اللہ بن شداد سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور آپ اس قدر رونے کے میں نے آپ کے رونے کی آواز صاف میں سنی“ تفسیر یعقوب چرخی صفحہ ۲۰ اور روح البیان صفحہ ۲۰ میں ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے شام کی نماز پڑھائی جب ”ایاک نعبدوا ایاک نستعين“ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے کتب فقہ مسٹہ المصلی قدوری، کنز الدقائق شرح وقار، در مختار اور فتوی عالمگیری، قاضی خاں میں باختلاف الفاظ یہ عبارت موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے نماز میں رونا اور آہ کرنا مفسد نماز نہیں بلکہ اگر مقتدی کو امام کی قرأت اچھی معلوم ہوئی اور رکر کہے کیوں نہیں یا ہاں یا البتہ تو بھی نماز فاسد نہ ہوگی یہ سب عبارتیں ظہور الصفات اور تحقیق الوجود میں ہیں جو چاہے دیکھ کر تسلی کر لے جن کے مطالعہ کے بعد ممکن نہیں کہ کوئی بالاصاف انسان انکار کر سکے۔

میری نماز با حضور میر امام سرور ☆ ایسے امام سے تو مال اسکی نماز میں تو آ جب عاشقان اللہ کو نماز میں حضور قلب حاصل ہو تو وہ مرفوع القلم ہیں جو حرکت بھی ان سے سرزد ہو وہ معוטب نہیں ہے یہی وہ نماز ہے جو پیر کامل قلندر فنا فی الرسول کی نظر عنایت سے طلب صادق کو حاصل ہوتی ہے نہ کہ طلب دنیا نفس پرست کو جس پیر نے مرید صادق کو یہ نماز نہیں پڑھائی وہ پیر نہیں بلکہ خواہ شات لفسانیہ کا پتلا ہے جو مرید کا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے قیامت میں اس کو باز پرس ہوگی کیونکہ وہ خدا کا مجرم ہے۔

اک بھی حضور قلب سے ہوتی نہیں ادا ☆ زاہد تیری نماز کو میر اسلام

نماز بے چینی اور بے قراری کا ہی نام ہے، نماز کی ہبہت کذا یہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، اسلام کے اركان میں بجز نماز کے اس قدر بے قراری نہیں گویا نمازی اپنے آقا کے سامنے مرغ بکل کی طرح ہے کبھی دست بستہ کھڑا ہے کبھی کبھی جھک گیا کبھی پیشانی کے بل زمین پر گر گیا پھر اٹھ گیا۔ دیکھا تو جلوہ یار اسی طرح پر تو فلن ہے پھر اگر غرض کسی وقت میں بھی چین نہیں، کسی وقت قرآن میں یہ ہے نماز کی ہبہت کذا یہ کافلہ۔ نماز بالفتح عند البعض بمعنی سوز و گداز ہے یعنی نماز کے معنی ہی سوز و گداز کے ہیں۔ صلوٰۃ بمعنی دعا ہے لیکن اصل لفظ میں صلوٰۃ (نماز) کے معنی آگ میں داخل ہونے اور گوشت کو بھوننے کے ہیں۔ لفظ کی معتبر کتاب قاموس مصنفہ علامہ محمد فروز مراد آبادی میں ہے "صلی اللحم یصلیہ ملیا شواه او القاه فی النار وللا حراق..... و صلی النار" خلاصہ یہ صلوٰۃ کے معنی گوشت بھوننے کے ہیں یا جلنے کے لئے آگ میں ڈالنا اور آگ میں داخل ہونا یہ سب محاورات عرب میں راغب اصفہانی میں ہے صلی بالنار و صلیت الشلة و قال يصلی ان و الكبری یصلی نارا سیصلی سعیوا و قال فسوف نصلیه ناوَا اصل الصنوه من الصلا۔ یعنی آگ میں داخل ہوا اور میں نے بکری کا گوشت بھوتا۔ اس سے آگے قرآن پاک کی متعدد آیات کو استشہدا پیش کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ صلوٰۃ (نماز) کے معنی آگ میں داخل ہونے اور گوشت بھوننے کے ہیں۔ اسی طرح لسان الغیب حضرت خواجہ حافظ شیرازی قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا۔

وَنَمَازٌ خُمْ ابْرُوْنَ تُوْجُونَ يَادَ آمَدْ! ☆ حَالَتْ رَفَتْ كَمْ حَرَابْ بِغِيرِ يَادَ آمَدْ!

جس نماز کی تعریف علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس اور علامہ راغب اصفہانی نے لکھی وہ نماز قلعے والی سرکار خواجہ فنا فی الرسول رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو پڑھ کر دکھادی ہے۔ ستر سالہ گنہگار سامنے آئے، ایک نگاہ پاک ان پر ڈالی اور عشق رسول میں رنگ دیئے جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی دونوں جہان میں پاک ہو گئے۔

عجیب شان ہے یا آپ کے دیوانوں کی

و جیاں خود بخود اڑتی ہیں گریاںوں میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نماز کو اول وقت ادا کرنا ہے جب نماز کا وقت ہو جاتا تو طبعیت نہایت بے قرار ہو جاتی جب تک ادا نہ کر لیتے چین نہ آتا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کی حالت یہ ہوتی (کانه لا یعرفنا) کہ گویا آپ ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ بعینہ یہی حالت قلندر پاک کی تھی۔

ترمذی شریف باب ماجانی الوقت الاول من الفضل میں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے معانی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا عمل

افضل ہے؟ فرمایا **الصلة لا ول وقتها** یعنی اول وقت نماز افضل عمل ہے۔ **الوقت الا دل من الصلة رضوان الله** یعنی اول وقت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما متعلق مردی ہے کہ **كانوا يصلون في أول الوقت** یعنی یہ ہر وہ جانشینان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اول وقت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے **قالت مادايت أحد كان اثم للظهور من رسول الله ﷺ ولا من ابى بكر ولا من عمر** (ترمذی) کہ میں نے ظہر کی نماز کے لئے حضور ﷺ سے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے زیادہ کسی کو جلدی کرنے والا نہیں دیکھا۔ جن حدیثوں میں ہے ظہر کی نماز سخنڈی کر کے پڑھو موؤل ہیں، شارحین نے فرمایا ان کا مطلب یہ ہے نماز کا مؤخر کرنا اس مسجد میں ہے جہاں لوگ دور سے آتے ہوں ان کے لئے تاخیر کی جاتی تھی۔

انتباہ : احتفاظ کے نزدیک گرمیوں میں نماز ظہر کی تاخیر مستحب ہے۔ فقیر نے رسالت "ابراہام ظہر" لکھا ہے مطبوعہ ہے اس کا مطالعہ کیجئے۔

سوال : بسا اوقات وجد کرنے والوں کے وجد و حال اور ان کے کوونے اور آہ و بکا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ تقریر کی سمجھنہیں آتی اور طبیعت بے لطف ہو جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں کی طبیعت بے لطف ہوتی ہے جن کا دل ابھی غلبہ عشق و محبت سے مالا مال نہیں وہ لوگ بیزار ہوتے ہیں جو دل میں پہلے ہی اعتراضات اور وساوس لے کر آتے ہیں۔ وجدین کی حرکت بے اختیار جب ثابت ہو چکا کہ ان کی حرکات مفسد نماز بھی نہیں تو اہل دل کی یکسوئی میں کس طرح خلل ہو سکتی ہیں جن میں واجدین کی حرکات آہ و بکا کی وجہ سے خلل واقع ہو وہ لوگ اہل دل نہیں روحانی بیمار ہیں۔ جن کو کسی کا احساس نہیں یا وہ لوگ زاہدان خشک کی صحبتوں کے عادی ہیں جن کی تعریف میں کسی اہل دل نے کہا،

ہم جانتے ہیں آئے ہیں ماتم کو فرشتے
جس بزم میں شغل میئے و ساغر نہیں ہو

سوال : اگر قرآن کا سننا و جد پیدا کرتا ہے تو صوفی قوالوں کے سرو دسنے پر کیوں جمع ہوتے ہیں۔ قاریوں کے حلقہ میں ہوتا نہ کہ قوالوں میں اور یہ بھی چاہئے تھا کہ ان کا اجتماع اور وجد کرنا قاریوں کے حلقہ میں ہوتا نہ قوالوں میں اور یہ بھی چاہئے تھا کہ ہر ایک دعوت میں اجتماع کے وقت کوئی قاری بلا یا جاتا نہ کہ قوال کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سرو دے افضل ہے۔

جوابات : اگرچہ قرآن مجید کا سننا باعث وجد ہے مگر اس کی بہ نسبت وجد کا جوش سماع سے زیادہ ہوتا ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی قدس سرہ نے اس کے سات جوابات لکھے ہیں۔

(۱) قرآن مجید کی تمام آیات سننے والے کے مناسب حال نہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ تمام کو سمجھ کر جس حال میں وہ بتلا ہے

اس پر ڈھال لے۔ مثلا جس پر حزن اور شوق اور ندامت غالب ہو تو اس کے حال کے مناسب یہ آیت کیسے ہوگی۔

یو صیکم اللہ فی اولاد کم للذکر مثل حظ الانشین۔ (التساء، ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان : اللہ جنہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹوں کے برابر ہے۔

اور یہ آیت والذین یر مون المحسنات الغفلت المؤمنت۔ (نور، ۲۳)

ترجمہ کنز الایمان : بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں ان پارسا ایمان والیوں کو۔

اسی طرح وہ آیات جن میں احکام میراث اور طلاق اور حدود وغیرہ ہیں اور دل کی بات محرک وہی چیز ہوتی ہے جو اس کے مناسب ہو اور اشعار کو جو شعراء نےنظم کیا ہے تو حالات دل کے ہی ظاہر کرنے کے لئے ہیں۔ ان اشعار سے حال کے سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کرنا پڑتا ہاں جس پر حالت زبردست غالب ہو اس کے ہوتے ہوئے دوسری حالت کی گنجائش ہی نہ ہو اور تیزی طبع اور ذکائی ذہن اتنا ہو کہ الفاظ میں سے دور دور کے معنی سمجھ لیا کرے تو ایسا شخص ہر بات سننے پر وجہ کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص **یو صیکم اللہ فی اولاد کم** سے موت کی حالت سمجھے جس سے وصیت کی جدت ہوتی ہے اور یہ کہ انسان کو ضروری ہے کہ اپنا مال اور اولاد جو دنیا کے اندر دو محظوظ چیزیں ہیں ان میں سے ایک محظوظ کو دوسرے کے قبضہ کے لئے چھوڑے اور دونوں سے جدا ہی کر جائے (تو اس خیال سے اس پر خوف اور فزع غالب ہو جائے) یا **یو صیکم اللہ** میں صرف اسم ذات سن کر مد ہوش ہو جائے نہ اس کے آگے کے مضمون کی خبر رہے نہ پیچھے کے معانی کی یاد میں یہ خیال سے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو دیکھنا چاہئے کہ بندوں پر عنایت رہے اور خیال سے رجا کی حالت جوش کر گئی اور موجب اس کے سرو استبشار کا موجب ہو گی **یا للذکر مثل حظ الانشین** سے دل میں یہ خیال کرے کہ مرد کو مردیت کی وجہ سے عورت پر فضیلت ہے اور آخرت میں فضیلت ان مردوں کو ہے جن کی شان یہ ہے۔

رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله۔ (التساء، ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان : وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔

اور اس خیال سے خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عورت اموال دنیا میں پیچھے رہ گئی ویسے ہی ہم بھی آخرت کی نعمتوں سے پیچھے نہ رہ جائیں تو اس طرح کے خیالات سے بعض اوقات وجد کی تحریک ہوتی ہے لیکن اسی شخص کو جس میں دو وصف ہوں ایک توانی مترقب غالب ہو دوسرے فظا نت جید اور ذکاء کامل کہ قریب کی با توں پر واقف ہو جائے اور ایسے مردان خدا چونکہ کمیاب ہیں اسی لئے تاویل کی جاتی ہے کہ اس میں الفاظ ان کے احوال کے مناسب ہوتے ہیں۔ سنتے ہی فوراً حالت وجد آ جاتا ہے۔

(۲) قرآن مجید اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور کافی اور دلوں پر کثرت سے آتا جاتا ہے اور جو بات کہ پہلی بار سنی جاتی ہے اس کا اثر دلوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسری دفعہ میں اثر ضعیف ہو جاتا ہے اور تیسرا بار تو گویا رہتا ہی نہیں اگر بالفرض کسی ایسے شخص کو کہا جائے کہ جس پر وجود غالب ہو کہ ہمیشہ ایک ہی شعر پر تھوڑے عرصہ میں ایک دن یا ہفتہ کے اندر وجود کیا کرے تو اس سے کبھی نہ ہو سکے گا۔ اگر شعر بدل دیا جائے تو اس کا اثر اس کے دل میں جدید پیدا ہو گا اگرچہ مضمون وہی ہو جو پہلے شعر کا تھا مگر لفظ اور وزن و قافیہ کا پہلے سے جدا ہونا نفس کو متحرک کر دیتا ہے گو قول وہی ہوا اور قاری سے ممکن ایسا نہیں کہ ہر وقت نیا قرآن پڑھے اور سورت نئی تلاوت کرے اس لئے کہ قرآن مخصوص ہے اس میں نہ کچھ ہو سکتا ہے نہ الفاظ بدل سکتے ہیں وہ تو کل کا کل محفوظ ہے بار بار وہی سننا جاتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیہاتیوں کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اسے سن کروتے ہیں تو فرمایا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے۔

(بار بار سن کر سخت یعنی اس سے منوس ہو گئے ہیں)

ازالہ وهم: اس سے یہ گمان نہ کرتا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا دل دیہاتیوں میں بھی زیادہ سخت تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام سے اتنی محبت نہ تھی جتنی دیہاتیوں کو تھی بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ دل پر مکر گزرنے سے عادی ہو گئے تھے اور کثرت اسامع کی وجہ سے اس سے اتنا انس تھا کہ اثر کم محسوس ہوتا تھا کیونکہ عادۃ محال ہے کہ کوئی سننے والا ایک آیت سنے جسے پہلے نہ سن ہوا اور اگر یہ کرے پھر تیس سال تک ہمیشہ اسی کو مکر پڑھ کر روایا کرے حالانکہ آیت وہی ہے مگر چونکہ نئی بات نہیں ہوتی اس لئے کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ مشہور ہے کہ **کل جدید لذید** ہر نئی چیز مزے دار ہوتی ہے۔ ہر نئی بات کا ایک اثر ہوتا ہے اور ہر منوس شے کے ساتھ انس ہوتا ہے اسی لئے دل پر ایسا اثر نہیں ہوتا جو جدید شے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حکایت: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کثرت سے نہ کرنے دیں اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ لوگ کہیں اس گھر سے منوس نہ ہو جائیں اور پھر اس کی وقعت دل میں کم ہو جائے۔ کیونکہ جو شے بار بار عمل میں آئے اس سے جی دو بھر ہو جاتا ہے اور کعبہ سے ایسا کرنا بے ادبی و گستاخی ہے تجربہ شاہد ہے کہ جو شخص جو کو جاتا ہے اور خانہ کعبہ پر اس کی پہلی نگاہ پڑتی ہے تو روتا اور چلاتا ہے اور بعض اوقات تو دیکھتے ہی بعض لوگوں پر غش آ جاتا ہے اور پھر اتفاقاً مکہ مکرمہ میں مہینہ بھی نہ ہوتا ہے تو وہ بات دل میں نہیں پاتا جو پہلے دیکھی تھی۔ یونہی قرآن مجید انسان عموماً پڑھتا ہے منوس ہو جاتا ہے پھر اس کی آیات و کلمات بدل بھی نہیں سکتا بخلاف اجنبی اور نئے اشعار کے ہر وقت تبدیل کر کے پڑھ سکتا ہے لیکن آیات میں قاری سے ایسا نہیں ہو سکتا۔

(۳) کلام کے موزوں ہونے سے شعر کا مزہ بدل جاتا ہے اور دل میں غلط اثر ڈالتا ہے کیونکہ اچھی آواز موزوں ہوتی ہے اور

کلام الہی شعری وزن نہیں ہوتا یعنی وزن اشعار میں پایا جاتا ہے آیات میں نہیں ہوتا اور وزن کو اس میں اتنا داخل ہے کہ پڑھنے والا جس شعر کو پڑھتا ہے تو اس میں اگر زحاف کر دے یا غلطی کرے یا لے کی حد سے (جونہ میں ہوتی ہے) ہٹ جائے تو سننے والے کا دل گھبرائے گا اور اس کا ذوق بے ذوق سے بدلا جائیگا بلکہ طبیعت کو عدم مناسبت کی وجہ سے وحشت ہو گی اور جب طبیعت پر پیشان ہو گی تو دل لازماً پر پیشان ہو گا۔ بخلاف قرآن مجید کی اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی بلکہ معمولی سی تبدیلی سے گناہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ راگ کے رنگ میں قرآن پڑھنا جائز ہے۔

(۴) شعر موزوں کی تاثیر دل میں نغموں کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے جن کو لے کہتے ہیں اور یہ باتیں حرف مقصود کو بڑھانے اور مدد کو گھٹانا نے اور کلمات کے نیچے میں وقف کرنے اور بعض کو منقطع اور بعض کو موصول کرنے سے ہوتی ہے اور ایسا تصرف اشعار میں درست ہے مگر قرآن مجید میں جائز نہیں کیونکہ اس میں تلاوت اسی طرح کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اگر مقضاۓ تلاوت کے خلاف اس میں مد کی جگہ قصیر اس عکس یا وقف یا وصل یا قطع ہو گا تو وہ حرام اور مکروہ ہو گا اگر قرآن مجید کو سادہ طور پر جیسے نازل ہوا ہے پڑھا جائے گا تو اس میں وہ اثر نہ ہو گا جو نغموں کے نسروں سے ہوتا ہے حالانکہ تاثیر میں وہ سب سرو د مستقل مؤثر ہیں اگرچہ سمجھنے جائیں جیسے تاروں کے باجوں اور نفیری اور شاہین اور تمام آوازوں میں جو سمجھ میں نہ آئیں اثر دیکھا جاتا ہے۔

(۵) نغمات موزوں کی تاکید اور آوازوں موزوں سے بھی ہو جاتی ہے جو حلق سے نہیں نکلتی مثلاً لکڑی سے گن لگانے یا ڈھونکی کی تال وغیرہ سے اثر دو بالا ہو جاتا ہے اس لئے کہ وجد تباہ ہوتا ہے جب اس کا سبب قوی ہو اور ان تمام باتوں کے سمجھا ہونے سے سُن قوی ہو جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو تاثیر میں داخل ہے اسی لئے واجب ہے کہ قرآن مجید کو ان جیسے امور سے بچایا جائے اس لئے کہ عوام کے نزدیک ان امور کی صورت کھیل جیسی ہے اور قرآن بالتفاق کھیل نہیں کیونکہ حق مخفی میں ایسی چیز ملانا جو عوام کے نزدیک کھیل ہو یا خواص کے نزدیک کھیل جیسی صورت ہو تو جائز نہ ہو گی بلکہ قرآن کی تعظیم چاہیے کہ عام راستوں پر بھی نہ پڑھا جائے اور نہ ہی جتابت کی حالت میں اور نہ ہی بے وضو ہونے کے وقت بلکہ ایسی مجلس میں پڑھا جائے جس میں خاموشی ہی خاموشی ہو اور ظاہر ہے کہ حق حرمت قرآن کا حق ان لوگوں کے سوا اور کسی سے پورا نہیں ہو سکتا جو اپنے احوال کے نگران ہیں۔ اسی وجہ سے راگ کی طرف میلان کیا جاتا ہے جس میں اس نگرانی اور لحاظ کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے شادی کی راتوں میں دف بجانا مع قرآن کی تلاوت کے درست حالانکہ دف بجانے کا حکم حضور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ نکاح کو ظاہر کرو اگرچہ چھلنی بجانے سے ہو (او ما قال رسول اللہ ﷺ) (فی قبیلہ)

مسئلہ : اشعار کے ساتھ دف بجانا درست ہے نہ کہ قرآن مجید سے یہی وجہ ہے کہ جب حضور ﷺ ربیع بنت معوذ کے گھر

میں ان کی شادی کے دن تشریف لے گئے اور ان کے پاس کچھ لوٹ دیاں گارہی تھیں آپ نے ایک جملہ سنائے
وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدِيرٍ (اور ہمارے میں وہ نبی علیہ السلام ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں) آپ نے فرمایا وہی پڑھو جو
پڑھتا ہے۔ (اوکار رسول اللہ ﷺ)

ازالہ وہم : اس جملہ سے وہابی دیوبندی استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کو علم غیر نہیں (بالخصوص کل کیا ہوگا) اس
کے فقیر نے متعدد جوابات اپنی تصنیف "غایتہ المامولہ اور نور الهدی" میں لکھے ہیں اور جواب یہ ہے کہ آپ نے
لڑکی کو اس شعر سے اس لئے روکا کہ وہ شعر موضوع کے خلاف تھا اس لئے کہ موضوع غزوہ کی داستان تھی اور وہ مناقب
پڑھنے لگیں۔ (اویسی غفرلہ)

اشعار گانے کے جواز کی وجہ یہی تھی یہ نبوت کی شہادت ہے اور یہ راگ کھیل ہوتا تو شہادت نبوت نہ ہوتی اسے ایسی
چیز سے نہیں ملا تا چاپیے جو کھیل کی صورت پر ہو کہ اس صورت میں ان اسباب کی تقویت دشوار ہو گی جسے دل کی تحریک کرتا ہے
تو اسی لئے اس قول سے منع فرمایا اور اس مصروع کی اجازت دے دی۔ (احیاء العلوم)

فائدہ : یہ وہابیوں دیوبندیوں کے لئے امام غزالی قدس سرہ کی طرف سے جواب ہو گا کہ موضوع کی تبدیلی کی وجہ سے
روکا۔ (اویسی غفرلہ)

انتباہ : جیسے اس لوٹ دی پر شہادت نبوت سے اشعار گانا ثابت ہوا تو ایسے ہی اشعار کی تبدیلی ضروری ہوئی لیکن یہ باقی
قرآن مجید میں نہیں ہو سکتیں۔

اور کبھی کوئی شعر ایسا پڑھتا ہے کہ سننے والے کے حال کے موافق نہیں ہوتا اسی لئے وہ اسے بر اجانب تھا اور قول کو
روک دیتا ہے یہ نہ کہو دوسرا شعر پڑھو کیونکہ ہر کلام ہر حال کے موافق نہیں ہوا کرتا پس اگر دعوتوں میں قاری سے کچھ پڑھوایا
کرتے تو بعید نہیں کہ وہ ایسی آیت پڑھتا جو ان کے حال کے موافق نہ ہوتی حالانکہ قرآن سب کا سب لوگوں کے لئے شفاء
ہے مگر باعتبار حالات کے ہے مثلاً رحمت کی آیات خائن کے حق میں شفاء ہیں اور عذاب کی آیات بے خوف اور مغالطہ میں
پڑے ہوئے شخص کے لئے شفاء ہیں اسی طرح ہر آیت کا قیاس کیجیے۔

ثابت ہوا کہ قرآن پڑھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت حاضر مجلس کے حال کے موافق نہ ہو اور کوئی
اسے اچھانہ سمجھنے اور کلام الٰہی کو بر اسمجھنے کے خطرہ سے احتراز کرنا نہایت واجب اور ضروری ہے اسی لئے اس سے نجات کی
تمذیب یہی ہے کہ کلام کو اپنے حال پر رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو صرف اسی صورت پر ڈھال سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مقصد
ہے اس سے کسی دوسری صورت پر ڈھالنا جائز نہیں اور شاعر کے شعر کو جائز ہے کہ اس کی مراد کے سوار پر محمول کر لیا جائے۔

خلاصہ: قرآن مجید میں یا تو اس کے برا جانے کا خطرہ ہے یا تاویل غلط کا اندیشہ جو حال کے موافق ہو تو کلام الٰہی کو ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھنا اور اس کی توقیر و احتجاب ہے یہ چھوڑ جوہ قرآن مجید کے سننے اور اشعار کی طرف صوفیہ کے میلان کی مجھے محسوس ہوئے ہیں۔ یہ امام غزالی قدس سرہ کا بیان ہے (احیاء العلوم) ایک اور وجہ لکھی

(۱) وہ وجہ یہ ہے جسے ابو نصر راج طوی نے ذکر کیا ہے کہ قرآن سے سماع نہ کرنے کا عذر اس طرح لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور چونکہ وہ حق اور غیر مخلوق ہے تو بشریت جو اس کی مخلوق ہے میں اس کی تاب نہیں اور اگرچہ معمولی قرآن مجید کے معانی اور بہبیت واضح ہو جائے تو بشریت کی صفات ہمث جائیں بلکہ مدھوش و متین ہو جائے مگر نغماتِ عمدہ کو طبیعتوں سے مناسبت ہے اور ان کی نسبت لذتوں کی نسبت ہے اور امور حقہ سے اسے کوئی نسبت نہیں اور شعر کی نسبت بھی حظوظ کی سی ہے تو جب اشعار کے اشارات اور اطائف نغمات و اصوات سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہم شکل ہو جاتے ہیں اور لذتوں سے قریب تر اور دلوں پر ہمکے محسوس ہوتے ہیں اس لئے کہ مخلوق کا جوڑ مخلوق سے خوب ہوتا ہے تو جب تک بشریت رہتی ہے ہم اپنی صفات اور حظوظ پر ہیں تو ہمیں راحت نغمات دلکش اور اصوات خوش محسوس ہوتے ہیں اس لئے ان حظوظ کی بقاء کے مشاہدہ کے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم اشعار کی طرف راغب ہوں اور کلام الٰہی سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اسی سے اس کا آغاز اور اسی پر اس کا انجام ہے حظوظ کے متألثی نہ ہوں۔ (یہ ابو نصر کی تقریر اور ان کا عذر کا خلاصہ ہے)

خلاصہ: کوئی دل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کئے ہوئے ہو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب ہو گا اور شراء تو اس کے واقف بھی نہیں ہوں گے لیکن شعراً انسان میں وہ جوش پیدا کرتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں ہوتا اور یہ بات شعر کے وزن اور طبائع سے ہم شکل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔

نکتہ: چونکہ اشعار طبیعت بشری کے مناسب ہوتے ہیں اس لئے انسان شعر بنانے پر قادر ہے لیکن قرآن مجید چونکہ کلام بشری کے اسلوب اور طریق سے باہر ہے اس لئے قوت بشری میں نہیں کہ ویسا کلام کہہ سکے کیونکہ اس کی طبیعت کے ہم شکل نہیں۔

انتباہ: فقیر نے اس سوال کے جواب میں حضرت امام غزالی قدس سرہ کے تسبیح میں طوالت کر دی ہے اس لئے کہ فقیر کے دور میں نعمت خوانی کی مخالف کا انعقاد بڑے ذوق و شوق سے ہوتا ہے مخالفین عوام کو بہکاتے ہیں کہ یہ لوگ قوالی کے عاشق ہیں یہ لوگ قرآن سننے سے کوتا ہی کرتے ہیں لیکن نعمت خوانی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اہل انصاف کے لئے یہ جوابات کافی ہیں ضدی ہمث دھرم تو ہے ہی لا علاج۔

یاد رہے کہ قوائی شے دیگر ہے وہ بھی ہمارے نزدیک بلا شرائط کچھ اسی رسالہ میں بیان کئے گئے ہیں تفصیل دیکھنی ہو تو امام غزالی کی "احیاء العلوم" کا ترجمہ "اتلاق المفہوم" کا مطالعہ کیجئے۔ جن لوگوں نے محافل میلاد و محافل نعمت کو بھی قوائی کہا ہے یہ ان کی شرارت ہے کیونکہ نعمت خوانی کی جس طرح دور حاضرہ میں بعض محافل منعقد ہوتی ہیں یہ شرعاً جائز ہے بلکہ عبادت ہے تفصیل و تحقیق کے لئے دیکھئے فقیر کے رسائل "نعمت خوانی عبادت ہے"، "نعمت خوانی پر انعام نبوی"، "نعمت خوانی کا ثبوت"۔

گستاخی کا انجام بد : چونکہ شرعی سماع اور صحیح محافل نعمت خوانی میں بعض خوش قسمتوں پر وجود بھی طاری ہو جاتا ہے بعض دھماں نہ کہی بے ساختہ و بلا ارادہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تو ان پر منکرین نے اعتراض کرنا ہی ہے لیکن بعض سنی شامل مجلس بھی انکار اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اس سے انہیں احتراز ضروری ہے ممکن ہے یہ وجود اور اس کی حرکت حقیقی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ ہو تو اعتراض و انکار پر انجام برپا ہو گا کیونکہ اللہ والوں پر اعتراض و انکار سے منجانب سزا ملتی ہے بلکہ خاتمه خراب ہونے کا خطرہ ہے چند حکایات ملاحظہ ہوں۔

فقیر نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں (۱) گستاخوں کا بر انجام (۲) بے ادب بے نصیب۔ ان کا مطالعہ ضروری ہے۔

اولیاء کرام پر اعتراض کرنے کا انجام بد

(۱) شیخ ابو عبد اللہ محمد بن الحسن مخزوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سخار میں سے ایک شخص بلا وجہ اسلاف صالحین پر نکتہ چینی کیا کرتا تھا اور جب وہ مرض الموت میں بنتا ہوا اور اس سے کلمہ پڑھنے کے لئے کہا گیا تو وہ ہر قسم کی بات تو کر لیتا تھا لیکن کلمہ اس کی زبان سے ادا نہ ہوتا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ کلمہ پڑھنے کی مجھ کو تکلیف نہ دو۔

یہ واقعہ لوگوں نے جب شیخ (سوید سخاری) رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تو آپ کچھ دریسرنگوں رہے اور اس کے پاس تشریف لائے اور اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی آپ کی تلقین سے اس نے متعدد بار کلمہ پڑھا۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ ”یہ اسلاف کو برا بھلا کہنے کی سزا تھی اور جب میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی تو مجھ سے فرمایا گیا کہ اگر وہ اولیاء جن کی اہانت کا یہ مرتكب ہوا ہے راضی ہو جائیں تو ہم تیری شفاعت قبول کر لیں گے۔ چنانچہ میں نے معروف کرنی، سری سقطی اور جنید و شبیلی رحمۃ اللہ علیہم سے عالم روحا نیت میں اس کی خطا معاف کر دینے کی سفارش کی جس کو ان نیک لوگوں نے قبول فرمایا اور اس کے منه سے کلمہ جاری ہو گیا“

پھر اس مریض شخص نے بتایا کہ جب کلمہ پڑھنے کا قصد کرتا تو ایک سیاہی چیز کو دکر میرا منہ بند کر دیتی تھی اور مجھ سے کہتی کہ میں اولیاء کرام کی طرف سے تیرے لئے ایک سزا ہوں۔ اس کے بعد ایک نور ظاہر ہوا جس نے اس سیاہی کو سرنگوں کر

دیا اور اس وقت میں نے زمین و آسمان کے درمیان ایک نورانی لشکر دیکھا جو سواریوں پر "سبوح قدوس" اور رب الملائکہ والروح" کا ذکر کر رہا تھا۔ پھر وہ شخص مرتے دم تک کلمہ شہادت کا ورد کرتا رہا۔ (فلاں الدجوہ حصہ ۲۰۱)

فائده: حضرت شیخ ابو عمر عثمان بن مروزہ بطاخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"اولیا کے قلوب معرفت کا ظرف ہوا کرتے ہیں، قلوب عارفین ظرفِ محبت اور قلوبِ محبین ظرفِ مشاہدہ اور قلوب شاہدین ظرفِ فوائد ہوا کرتے ہیں۔ پھر ان حالات کے کچھ آداب بھی ہیں اور وہ شخص ان آداب سے غافل ہو جاتا ہے وہ اپنی ہلاکت کا اہتمام کرتا ہے۔" - نیز آپ فرماتے ہیں

"غافل لوگ اللہ کے حکم میں زندگی گزارتے ہیں اور ذکر کرنے والے روحانی زندگی بسر کرتے ہیں عارفین اللہ کے لطف و کرم میں زندہ رہتے ہیں صد یقین قرب الہی میں حیاتِ تازہ پاتے ہیں اور محبت کرنے والے باطاطی پر اس طرح جیتے ہیں کہ وہ ان کو خلا تاپلاتا ہے" (فلاں الدجوہ حصہ ۲۰۷)

(۲) شریف محمد بند خضر الحسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ موصل کے قاضی یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ قضیب البان علیہ الرحمۃ سامنے آگئے۔ اس وقت گلی میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس وقت یہاں کوئی موجود ہوتا تو میں ان کی گرفتاری کا حکم دیتا۔ اس خیال کے آتے ہی چند قدم چلنے کے بعد دیکھا قضیب البان نے کردوں جیسی شکل اختیار کر لی تھی۔ پھر چند قدم چل کر بدلوں جیسی صورت تبدیل کر لی۔ پھر چند قدم چل کر ٹھیک جیسی صورت ہو گئی اس کے بعد اپنی اصلی شکل اختیار کر کے پوچھا کہ

"اے قاضی! ان چار صورتوں میں سے قضیب البان (رحمۃ اللہ علیہ) کی کون ہی صورت ہے جس کو شہر بد کرنے کے لئے بادشاہ سے کہنا چاہتے ہو" (قضیب البان ایک کامل ولی اللہ تھے ان کی اس قسم کی بے شمار کرامات ہیں)

قاضی صاحب کا بیان ہے کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے ادب کے ساتھ جھک کر شیخ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اللہ سے اپنے سوئے ظن پر استغفار کی۔ (فلاں الدجوہ حصہ ۲۱۸)

فائده: ایک مرتبہ آپ کا ذکر حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ "وہ ایسے مقرب بارگاولی ہیں جو صدق و اخلاص پر قائم رہتے ہیں"

(۳) اشیخ ابو الحسن جو سقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ علی بن ابیتی رحمۃ اللہ علیہ (جو کہ حضور سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ تھے) کے پاس ایک خادم جس کا نام ریحانہ اور لقب بنت البھا تھا وہ مرض الموت میں بیٹلا ہوئی تو شیخ سے عرض کیا کہ مجھے کھجوروں کی خواہش ہے۔ جبکہ قریبہ وزیر ایں میں کھجور کا وجود تک نہ تھا۔ البتہ قریبہ قطفاً میں عبد السلام نامی

شخص کے پاس کھجوریں موجود تھیں۔

چنانچہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قریبی کی طرف منہ کر کے فرمایا ”اے عبدالسلام! ریحانہ کے لئے کھجوریں پیش کرو“ اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں تک پہنچا دیا اور اس نے سفر کر کے وہ کھجوریں ریحانہ کی خدمت میں پیش کیں۔ جن کو ریحانہ نے خوب سیر ہو کر کھایا اور جب عبدالسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں شیخ سے بھی زیادہ کھجوریں عزیز ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو دین و دنیا کو خیر پاد کہہ کر صرف شیخ علی (رحمۃ اللہ علیہ) کی خادمہ بن چکی ہوں۔ ”جا تیرا انعام تو نصرانی ہونا ہے، یہ کہہ کرو وہ فوت ہو گئی اور جب عبدالسلام بغداد واپس ہوئے تو راستے میں کچھ نصرانی عورتوں سے ملاقات ہو گئی۔ جن میں سے ایک کے ساتھ انہوں نے نکاح کا اظہار کر دیا لیکن اس نے شرط لگائی کہ تم نصرانیت قبول کرو تو تم سے نکاح کر سکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نصرانی مذہب قبول کر لیا اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے اور اس عورت سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔

جب عبدالسلام شدید بیمار ہوئے تو کسی نے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر پورا واقعی بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”اس کے اوپر ریحانہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے اور اب وہ چونکہ اس سے راضی ہو گئی ہے اس لئے میں اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو اپنے اصلی دین پر پھیر دے کیونکہ مجھے یہ گوارانیں کہ اس کا حشر نصاریٰ کے ساتھ ہو“ پھر آپ نے عمر براز علیہ الرحمۃ کو حکم دیا کہ ”اس بستی میں جا کر اس کے اوپر ایک گھڑا پانی بھادو اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔“

چنانچہ جب اس کے اوپر پانی بھایا گیا تو وہ صحت یا ب ہو گیا اور تائب ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے تمام بیوی بچوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور جب سب لوگ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عبدالسلام کی تمام صلاحیتیں جو مذہب کی تبدیلی کی وجہ سے ختم ہو گئی تھیں عود کر آئیں۔ (فلامد الجواہر ص ۳۱۸-۳۱۹)

گفتہ او گفتہ اللہ بود ☆ اگرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

(۲) ابن القاکے انعام بد کا واقعہ بھی بہت مشہور و معروف ہے اب سعید عبداللہ محمد بن بتہ اللہ تمیٰ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ۵۸۰ھ میں جامع دمشق میں بیان کیا کہ میں جوانی میں تحصیل علوم کے لئے بغداد گیا وہاں مدرسہ نظامیہ میں ابن القاکہ رفیق تھا ہم عبادت کیا کرتے تھے اور صالحین کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں بغداد میں ایک شخص تھا جسے غوث کہا کرتے تھے۔ اس کی نسبت مشہور تھا کہ وہ جب چاہے ظاہر ہو جاتا ہے اور جب چاہیں غائب ہو جاتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی وہیں تعلیم پاتے تھے۔ ایک روز ہم تینوں اس غوث کی زیارت کے لئے گئے راستے میں ابن

القانے کہا میں اس غوث سے آج ایک مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب وہ نہ دے سکے گا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایک مسئلہ دریافت کروں گا تاکہ دیکھوں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں اس کے سامنے اس سے کچھ پوچھوں۔ میں تو اس کی زیارت کی برکات کا منتظر ہوں گا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس غوث کو مکان میں نہ پایا اس لئے ہم تھوڑی دیر تھے پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس نے ابن القا کی طرف غصہ سے نگاہ کی اور کہا اے ابن القا تجھ پر افسوس ہے کہ تو مجھ سے ایسا پوچھنا چاہتا ہے کہ جس کا جواب مجھے نہ آئے وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ میں دیکھا ہوں کہ تجھ میں کفر کی آگ شعلہ زن ہے۔ پھر اس غوث نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے عبد اللہ! کیا تو مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تاکہ دیکھے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے تیری بے ادبی کے سبب تجھ پر دنیا تیرے کا نوں کی لوٹک گرے گی۔ پھر اس نے شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ کی۔ انھیں اپنے پاس بٹھایا ان کی عزت کی اور فرمایا اے عبدال قادر جیلانی (رضی اللہ عنہ) تو نے اپنے ادب سے اللہ اور رسول ﷺ کو راضی کر لیا میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد میں مجمع میں کرسی پر بیٹھا ہوا عظم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ”میرا یہ قدم ہروی کی گردن پر ہے“

(قدمی هذه على رقبة كل ولی الله) میں گویا تیرے وقت کے اولیاء کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تیری عظمت کے آگے اپنی گرد نیں جھکا دی ہیں یہ کہہ کر وہ غوث اسی وقت ہم سے غائب ہو گئے اور ہم نے پھر انہیں نہیں دیکھا۔ مگر ان کے ارشاد کے مطابق سید شیخ عبدال قادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے لئے قرب الہی کی علامت ظاہر ہوئی خاص و عام اس پر جمع ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ”میرا یہ قدم ہروی اللہ کی گردن پر ہے“ اور اس وقت کے اولیاء نے آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو تسلیم کر لیا۔

ابن القاععلوم شرعیہ میں مشغول ہوا یہاں تک کہ ان میں ماہر ہو گیا اور اپنے زمانے کے بہت سے لوگوں سے سبقت لے گیا اور تمام علوم میں مناظرہ میں مخالف کو ساکت کرنے میں مشہور ہو گیا۔ چونکہ فتح اور صاحب عظمت بھی تھا۔ اس لئے خلیفہ وقت نے اسے اپنا مقرب بنالیا اور شاہ روم کی طرف قاصد بنا کر بھیجا شاہ مذکور نے اسے صاحب فنون پایا اور اس سے خوش ہوا اور عیسائی مذہب کے علماء اور پادریوں کو مناظرہ کے لئے جمع کیا۔ ابن القا نے مناظرہ میں سب کو ساکت کر دیا اس لئے وہ شاہ روم کی نظر میں بزرگ ہو گیا پھر اس نے بادشاہ کی لڑکی جودیکھی تو اس پر عاشق ہو گیا اور بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کا نکاح مجھ سے کر دیا جائے۔ شاہ روم نے کہا کہ تمہارے عیسائی ہوئے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ابن القاعیسائی ہو گیا بادشاہ نے اپنی لڑکی اس سے بیاہ دی تب ابن القا کو اس غوث کا قول یاد آیا اور وہ سمجھ گیا کہ اسی کے سبب میں اس مصیبت میں بیٹلا ہوا ہوں۔

رہا میں سو میں دمشق میں آیا اور سلطان نور الدین زنگی شہید نے مجھے بلایا اور اوقاف کا حاکم بنادیا۔ پس ہر طرف سے دنیا مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ اسی طرح ہم تینوں کی نسبت جو کچھ اس غوث نے فرمایا تھا وہ بالکل حق نکلا۔

واقعہ مذکورہ بالا کو نقل کر کے شیخ ابن حجر عسکری یوں تحریر فرماتے ہیں

اس حکایت میں جونا قلمین عادلین کی کثرت کے سبب معنی کی رو سے متواتر ہے اولیاء اللہ سے انکار پر بڑی زجو تو نجع ہے مبادا منکر اولیاء اللہ ابن القاکی طرح ابدی ہلاکت کے فتنہ میں بنتا ہو کہ جس سے بدتر کوئی فتنہ نہیں۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اس کی ذات کریم اور اس کے روف و رحیم جبیب پاک ﷺ کے ویلے سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اپنے احسان و کرم سے ہمیں اس سے اور ہر ایک فتنہ اور بلا سے امن میں رکھے اور نیز اس حکایت میں اس امر کی بڑی ترغیب ہے کہ جہاں تک ہو سکے اولیاء اللہ کی نسبت حسن اعتقاد اور حسن ظن رکھنا چاہئے اور ان کا ادب کرنا چاہئے۔

(تذکرہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ص ۲۵۹ تا ۲۶۰ از علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ، فتحات الانس ص ۲۵۹)

حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔“

”جس نے میرے ولی سے عداوت کی تو میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔“

فائدہ : اولیاء اللہ بعض و عنادر کھنا، ان سے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو دعوت جنگ دینے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ کے قہر و غصب اور اس کی شانِ جباری و قہاری کا بھلا کیونکر مقابلہ کیا جاسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی لغزشوں اور کوتا ہیوں کو معاف فرمائے اور اولیاء اللہ کے ساتھ عقیدت و محبت اور حسن ظن رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم آمين بحر مہ سید المرسلین ﷺ

(۳) ابن خلقان اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ یوسف بن ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرمادی ہے تھے اور بہت سے علماء کا اجتماع تھا اسٹائے وعظ میں ابن سقا نامی فقیہ نے ایک مسئلہ غلط انداز سے دریافت کر کے آپ (شیخ ابو یعقوب یوسف بن یوب ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ) کو تکلیف پہنچا کی چنانچہ شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقیہ سے کہا کہ تمہارے کلام میں کفر کی بوآتی ہے اور تم یقیناً کسی دوسرے مذهب پر مرو گے۔

چنانچہ جب شاہ روم کا قاصد خلیفہ وقت کے پاس آیا تو یہی فقیہ ابن سقا اس کے ساتھ قسطنطینیہ چلا گیا اور وہیں نصرانی ہو کر مر گیا۔ حالانکہ وہ حالت اسلام میں بہترین قاری تھا۔ بعض لوگوں نے اس کا واقعہ بیان کیا کہ حالت مرض میں اس کو قسطنطینیہ کی ایک دکان میں اس حالت میں دیکھا گیا کہ پنکھا ہاتھ میں لئے اپنے چہرے سے مکھیاں اڑاتا تھا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اب بھی تجھ کو قرآن یاد ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ سوائے ایک آیت کے اور کچھ یاد نہیں اور وہ آیت ہے

”رَبِّمَا يُودُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا لِوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ“

(بس اوقات کافر تناکریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے)

فائدہ: اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین۔ اے عزیز و احتمیل اللہ والوں پر تنقید ترک کر کے اولیاء کرام پر اعتقاد رکھنا چاہئے اس لئے کہ ان کی دعا تیر بہدف اور سُم قاتل کا حکم رکھتی ہے لہذا ان پر اعتراض نہ کرو کیونکہ تنقید اور ترک اعتقاد سے جو انجام ابن سقا کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے سب کو محفوظ رکھے۔ آمین (قلائد الجواہر ص ۳۸۸)

(۵) حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شیخ عبدالقدوس جیلانی قدس سرہ کی خانقاہ میں آیا تو دروازے پر ایک شخص کو پڑا ہوا پایا جو خستہ حال اور ٹوٹے ہوئے پاؤں والا تھا۔ اس شخص نے شیخ صاحب کی خدمت میں اس شخص کی بابت عرض کی اور دعا کی درخواست کی۔ فرمایا اس نے بے ادبی کی ہے پوچھا کون ہی بے ادبی فرمایا کہ وہ ابدال میں سے ہے ایک یہ اور دواں کے ہمراہ ہوا میں اڑتے جا رہے تھے جب ہماری خانقاہ کے برابر آئے تو اس کا ایک یار خانقاہ سے منحر ہو گیا اور ادب کی وجہ سے باعث میں طرف ہو کر گزر گیا اور دوسرا دامیں طرف سے مگر یہ بے ادبی کر کے اوپر سے گزر جس کی وجہ سے گر پڑا۔ (فواہد الفوادص ۲۲ تا ۳۴)

(۶) حضرت شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا ادب: آپ ایک مرتبہ نمازِ جمعہ کے لئے نکلے اور اپنے خچر پر سوار ہو رہے تھے کہ قدم نیچے اتار لیا۔ پھر کچھ تو قف کے بعد اس پر سوار ہوئے اور جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ

”میں نے اس لئے قدم نیچے اتار لیا کہ اس وقت میرے سردار اور میرے شیخ سید عبدالقدوس جیلانی رضی اللہ عنہ بغداد میں اپنے خچر پر سوار ہو رہے تھے اور میں نے پیش قدمی کو احترام کے منانی تصور کیا“

آپ کے صاحبزادے شیخ ابو حفص بیان کرتے ہیں کہ میں نے والد کے ہمراہ ایک سفر کا قصد کیا تو آپ نے اپنی سواری پر قدم رکھ کر نیچے اتار لیا اور گھر میں چلے گئے اور میرے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ”اب میرے قدموں کے لئے کہیں جگنہیں۔“ اس کے بعد زندگی بھر طفون نج سے باہر نہیں گئے۔

”آپ ان بزرگوں میں سے تھے جو یہ فرماتے تھے کہ اولیاء کرام میں میری پشت ایسی ہے جیسی پرندوں میں کنگ کی ہوتی ہے یعنی میں لمبی گردان والا ہوں (اَنَا بَيْنَ الْأَوْلَاءِ كَالْكَرْكَى بَيْنَ الطَّيُورِ أَطْوَلُهُمْ عَنْقًا) اور جس مرید کے اوپر کوئی بارہوہ میرے اوپر رکھ دے۔“

جس وقت آپ نے یہ فرمایا تو شیخ ابو الحسن علی الحسینی رضی اللہ عنہ نے جو خوبی صاحب معرفت تھے اپنی گذری اتار کر

کہا کہ یہ آپ کے سامنے ہے یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ”اس گدڑی میں مجھے ایک دھاگہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جو عنایت الٰہی سے خالی ہو۔“

یہ فرمائی کہ ان کو گدڑی پہن لینے کا حکم دیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں جس لباس کو اتار چکا اس کو واپس نہیں لیتا اور یہ کہہ کر جنت نامی قریب کی طرف متوجہ ہوئے اور آواز دے کر کہا کہ اے فاطمہ! میرا لباس لے کر آؤ چنانچہ اس آواز کو وہاں سے ان کی بیوی نے (کافی فاصلہ ہونے کے باوجود) سن لیا اور وہ راستے میں کپڑے لاتی ہوئی ملیں۔

یہ کیفیت دیکھ کر شیخ عبدالرحمن (رحمۃ اللہ علیہ) نے پوچھا کہ تمہارا شیخ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ یہ سن کر شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”ان کا ذکر صرف زمین پر ہے کیونکہ میں چالیس سال سے حق تعالیٰ کے نزدیک منزل درکات میں ہوں لیکن میں نے ان کو کبھی آتے جاتے نہیں دیکھا۔“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے درباں سارباں اور حرم کے غلاموں کو حکم دیا کہ ”طفسونِ نجح کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ راستہ میں تمہیں شیخ عبدالرحمن کے خدام کی ایک جماعت ملے گی جس کو فلاں فلاں مقصد کے لئے بھیجا ہے ان سے ملاقات کر کے انہیں واپس شیخ عبدالرحمن (علیہ الرحمۃ) کے پاس لے جانا اور شیخ سے سلام کر کے کہنا کہ شیخ عبدالقادر (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا ہے کہ چونکہ منزل درکات میں ہیں اور اہل درکات بارگاہ الٰہی میں حاضر ہونے والوں (مقامِ مخدع والوں) کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضوری میں رہنے والے اہل خلوت کو نہیں دیکھ سکتے اور میں تو باطنی دروازے سے اسی طرح آتا جاتا ہوں کہ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ فلاں خلعت فلاں وقت جو تم کو عطا کی گئی تھی وہ میرے ہاتھوں سے نکلی تھی اور وہ خلعت رضا تھی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ فلاں شب کو جو تم کو فلاں اعزاز عطا کیا گیا تھا وہ بھی میرے ذریعہ سے پہنچا تھا اور وہ شرف فتح ہے۔ تیسرا علامت یہ ہے کہ منزل درکات میں ایک ہزار اولیاء اللہ کی موجودگی میں جو خلعت ولایت عطا ہوئی تھی اس کا رنگ سبز تھا اور اس پر سورہ اخلاص منقش تھی وہ بھی میرے ہاتھوں سے نکلی تھی۔“

راستے میں حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کے مریدوں سے شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کی ملاقات ہوئی اور ان کو یہ لوگ ساتھ لے کر شیخ عبدالرحمن کے پاس پہنچے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کا پیام عبدالرحمن کو پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے پنج فرمایا وہ واقعی سلطان الاولیاء اور صاحب تصرف ہیں۔

(قلائد الجواہر ص ۳۶۶، فتحات الانس ص ۷۲۳ تا ۷۲۴)

فیض نظر کے لئے ضبط سخن چاہئے ☆ حرف پرشان نہ کہہ اہل نظر کے حضور

(۷) ایک مرتبہ شیخ بقابن بطورہ رحمۃ اللہ علیہ کرامت کے سلسلے میں کچھ فرمائے تھے کہ ایک صاحب کشف و حال نے عرض کیا

کہ ہمارے دور میں ایسا صاحب حال بھی ہے کہ ”جب پیاس بجھانے کے لئے کنوئیں میں ڈول ڈالتا ہے تو اس کا ڈول سونے چاندی سے لبریز ہو جاتا ہے اور اگر وہ کسی جانب متوجہ ہوتا ہے تو وہاں سونا ہی سونا بکھر جاتا ہے جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو قبلہ اس کے سامنے ہوتا ہے“ پھر اس نے اپنے ذات کی طرف اشارہ کیا یہ سن کر شیخ (بقباب بن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ) نے جب اس کی طرف نظر ڈالی تو اسی وقت اس کا حال سلب ہو گیا اور جب اس نے توبہ کی تو آپ نے فرمایا ”جو گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آتا۔“

(۸) ایک مرتبہ تمیں فقہاء نے آپ (شیخ بقباب بن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ) کی امامت میں نماز ادا کی لیکن آپ کی قرأت کو اپنے معیار کے مطابق نہ پا کر کچھ بدظن سے ہو گئے اور جب رات کو سوئے تو ہمیں کو احتمام ہو گیا اور جب نہر میں غسل کی نیت سے داخل ہوئے تو ایک بہت بڑے شیر نے ان کے کپڑوں پر قبضہ کر لیا۔ سردی کی شدت سے ہمیں کو ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو گیا تو ان حضرات کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اپنے دلوں میں ندامت محسوس کر کے توبہ کی تو شیر نے کپڑے چھوڑے اور یہ پہن کر واپس ہوئے اور جب شیخ خانقاہ سے برآمد ہوئے تو وہ شیر آپ کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ آپ نے اس کو مارتے ہوئے فرمایا کہ ”تو نے ہمارے مہمانوں سے کیوں تعارض کیا؟ گوئیں ہماری ذات سے بدظنی تھی،“ اور جب وہ شیر چلا گیا تو ہمیں فقہاء نے آپ کے سامنے توبہ کی تو آپ نے ان سے فرمایا۔ ”تم زبانوں کی اصلاح کرتے ہو ہم قلوب کے مصلح ہیں۔“

(فلاہ الدین الجواہری ص ۳۶۹)

غوث اعظم در میان اولیاء ☆ چوں محمد در میان انبیاء

(۹) حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت غوث اعظم عالم اور غوث اعظم میں کتنا فرق ہے؟ تو فرمایا کہ معمولی ہے حتیٰ کہ سائل نے تین بار یہی پوچھا اور ہر بار یہی جواب پایا جس سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی غیرت نے جوش مارا اور بہاؤ الدین علیہ الرحمۃ کا فیض یک لخت سلب ہو گیا آخر قصیدہ لکھ کر حضور (سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ) کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور معافی مانگی۔ قصیدہ کا آخری بند ملاحظہ ہو

منم سردر فدائے تو خاکپائے تو
فقیر تو گدائے تو گدائے بینوائے تو
بجاں جوئم رضاۓ تو بدل دارم وقارے تو
کنم دردیدہ جائے تو بامید لقاء تو
بہاؤ الدین ملتانی سگ در گاہ جیلانی

فقیر اولیٰ غفرلہ نے یہ رسالہ صحیح وجد و دھماں والوں کے لئے لکھا ہے اور جو بطور ریاء و قصع وجد و دھماں کرتے ہیں ان سے اس رسالہ کا کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے اہل علم اس سے فائدہ پائیں گے اور میرے لئے تو شرہ آخرت ہو عوام کے لئے مشعل را ہدایت۔ (آمین)

بجاه حبیبہ سید المرسلین ﷺ

مدینے کا بحکاری

الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اولیٰ رضوی غفرلہ،

۱۶ ذوالحجہ ۱۴۲۲ھ

بہاول پور۔ پاکستان